



S19OCH10

باب 10

مختلف سماجی حالات کے سروکار اور ضرورتیں

(Concerns and Needs in Diverse Contexts)

A: تغذیہ، صحت اور صفائی

(Nutrition, Health and Hygiene)

آموزشی مقاصد

اس سیکشن کے مطابعے کے بعد طلباء:

- صحت اور اس کی مختلف جہات کی اہمیت پر بحث کر سکیں گے۔
- تغذیہ اور صحت کے باہمی رشتہوں کو سمجھ سکیں گے۔
- تغذیہ کی کلقت (under nutrition) اور کثرت تغذیہ (overnutrition) کے نتائج جان سکیں گے۔
- مناسب اور صحت مند غذائی عادتوں کا انتخاب کر سکیں گے۔
- تغذیہ اور بیماری کے درمیان باہمی تعلق کی نشان دہی کر سکیں گے۔
- غذاوں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام میں صفائی کی اہمیت کی (Sanitation) وضاحت کر سکیں گے۔

10A.1 تعارف

ہر شخص اپنی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے اور صحت و سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ 1948ء میں انسانی حقوق کے عالمی منشور میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ”ہر شخص کو ایک ایسی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے جو اس کے خاندان کی صحت و سلامتی اور غذا فراہم کرنے کے لیے مناسب ہو۔“ اس کے باوجود کئی ماحولیاتی حالات اور ہمارے اپنے طرز زندگی کے اثرات ہماری صحت پر پڑتے ہیں جو کبھی کبھی

کبھی مضر بھی ہوتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے، ہم لفظ صحت کی وضاحت کریں۔ صحت سے متعلق ممتاز ترین عالمی تنظیم یعنی عالمی صحت تنظیم (WHO) نے 'صحت' کی تعریف اس طرح بیان کی ہے "صحت ایک مکمل ہنی، جسمانی اور سماجی سلامتی کی حالت ہے اور یہ مرض بیماری نہ ہونے کا نام نہیں" بیماری کا مطلب جسمانی صحت میں غفل اور جسم کے کسی عضو یا حصے کے افعال میں رکاوٹ بگاڑ اور ایسی تبدیلی ہے جس سے اس عضو کے معمول کے افعال (normal functions) میں بے قاعدگی پیدا ہوتی ہے اور وہ مکمل سلامتی کی

حالت سے دور جا پڑتے ہیں۔ صحت ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ تمام

صحت کے ماہرین (وہ لوگ جو صحت کے مختلف پہلوؤں سے وابستہ ہوں) کا عمومی مقصد اچھی صحت کو فروغ دینا ہے۔ یعنی زندگی کی بہبود یا سلامتی کو برقرار رکھنے میں تعاون دینا ہے۔

لوگوں کو عمر، صفت، نسل، عقیدے، مذہب، جائے رہائش (شہری، دیہی، قبیلہ جاتی) اور قومیت کی کسی بھی تفریق کے بغیر زندگی بھر صحت کا بلند ترین معیار حاصل کرنے اور اس کو برقرار رکھنے کا حق حاصل ہے۔

10A-2 صحت اور اس کی جہات (Health and its Dimensions)

آپ نے غور کیا ہو گا کہ صحت کی تعریف میں کئی جہات (یعنی جسمانی، سماجی اور رہنمی) شامل ہیں۔ جسمانی صحت پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ہم مختصر طور پر ان تینوں جہتوں کے بارے میں غور کریں گے۔

سماجی صحت (Social Health): سماجی صحت سے مراد افراد اور سماج کی صحت ہے۔ جب ہم سماج کی بات کرتے ہیں تو ہم اس سماج کا ذکر کر رہے ہو تے ہیں جہاں تمام شہر یوں کو اچھی صحت کے لیے ضروری تمام بنیادی چیزیں اور خدمات حاصل کرنے کے لیکس اس موقع ملیں۔ جب ہم افراد کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد ہر فرد کی بہبود ہوتی ہے۔ یعنی ہر فرد وسرے لوگوں اور سماجی اداروں کے ساتھ خوش گوار تعلق رکھے۔ سماجی صحت میں ہماری سماجی صلاحیتیں اور سماج کے فرد کی حیثیت سے کام کرنے کی الہیت شامل ہیں۔ جب ہم مشکلات اور تناویاً باؤ سے دوچار ہوتے ہیں تو سماجی تعاون ہمیں مقابلہ کی ہمہ اور درپیش مسئلے کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سماجی تعاون کے اقدامات بچوں اور بالغوں میں ثابت سماجی مطابقت اور ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں اور شخصی نشوونما کو فروغ دیتے ہیں۔ سائنسی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ سماج کے ساتھ اچھی مطابقت رکھتے ہیں ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور وہ بیماریوں سے بھی جلد صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آج کل سماجی صحت کو بہت اہمیت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ صحت کے چند سماجی عوامل حسب ذیل ہیں:

— روزگار کی نوعیت

— کارخانے یا دیگر کام کرنے کی جگہوں پر حفاظت

— صحت خدمات کی دستیابی

— ثقافتی، مذہبی عقائد، اخلاقی پابندیاں، اقدار کا نظام

— سماجی، اقتصادی اور ماحولیاتی حالات

رہنمی صحت: اس سے مراد جذباتی اور نفسیاتی بہبود ہے۔ جس شخص کو نفسیاتی سلامتی کا احساس ہو گا وہ اپنی اور ادا کی اور جذباتی

صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر سکے گا، سماج میں اچھی طرح رہ سکے گا اور روزمرہ زندگی کے عام تقاضوں کو پورا کر سکے گا۔ ذیل میں دیے گئے خانے میں ڈھنی صحت کے بچھے اشارے دیکھیے۔

ثبت ڈھنی صحت والا شخص۔

- محسوس کرتا ہے کہ وہ باصلاحیت اور کام کرنے کا اہل ہے۔
- روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے دباؤ یا تناؤ سے نمٹ سکتا ہے۔
- اس کے سماجی رشتے اطمینان بخش ہوتے ہیں۔
- خود اپنے مل پر زندگی گزار سکتا ہے۔
- اگر کسی جذباتی یا ڈھنی تناؤ یا باؤ کا شکار ہوتا ہے تو اس صورت حال کا مقابلہ کرتا ہے اور اس سے باہر آ سکتا ہے۔
- حالات سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔
- اگرچھوٹی موٹی مشکلات یا مسائل کا سامنا ہو تو غیر معمولی طویل مدت تک شکست خوردگی یا کم ہمتی میں بنتا نہیں ہوتا۔

جسمانی صحت: صحت کا یہ پہلو جسمانی تن درستی (Physical fitness) اور جسم کے کاموں پر مشتمل ہے۔ جسمانی طور پر صحت مندوہ شخص ہے جو اپنے معمولات کو انجام دے سکے۔ غیر معمولی طور پر تھکا ہوانہ محسوس کرے اور جراثیم زدگی (Infection) اور بیماری سے مزاحمت کی مناسب صلاحیت رکھتا ہو۔

10A-3 صحت کی نگہداشت (Health care)

ہر شخص اپنی صحت کا خود ذمے دار ہے لیکن یہ ایک اہم اور سماجی سروکار (Public Concern) بھی ہے۔ اس لیے حکومت اس سلسلے میں اپنی ذمے داری ادا کرتی ہے اور ملک کے شہریوں کو مختلف سطحیوں پر صحت سے متعلق خدمات مہیا کرتی ہے۔ دراصل اچھی صحت فرداور خاندان دونوں کے لیے معیاری اور بہتر زندگی کی اساس ہے اور برادری اور ملک کی سماجی، اقتصادی اور انسانی ترقی کو لیکن بنانے کی بنیاد بھی۔

صحت کی دیکھ بھال ان مختلف خدمات پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں صحت خدمات سے متعلق اداروں کے کارکن یا ماہرین، صحت کے فروع، اس کی دیکھ بھال، نگرانی یا بحالی کے لیے افراد اور برادریوں کو مہیا کراتے ہیں۔ اس طرح صحت کی نگہداشت میں انسدادی، ترقیاتی اور معالجاتی پہلو شامل ہیں۔ صحت خدمات تین سطحیوں پر مہیا کرائی جاتی ہیں۔ ابتدائی، ثانوی اور تیسری۔ ایک مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ گاؤں میں عام طور پر ابتدائی صحت مرکز ہوتا ہے جس میں صحت کی ابتدائی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ صلح اسپتال میں ثانوی درجے کی صحت خدمات کا انتظام ہوتا ہے۔ دہلی کے آل ائڑیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (AIIMS) جیسے اسپتاں میں تیسرے (Tertiary) درجے کی نگہداشت فراہم کی جاتی ہے۔ اس اسپتال میں ایسے مریضوں کو لیا جاتا ہے جنہیں ثانوی سطح کے اسپتال، بہتر علاج کے لیے بھیجتے ہیں۔

10A.4 صحت کے اشارے (Indicators of Health)

صحت کی شریعہ ہوتی ہے اور ہر جہت (Dimension) کو متاثر کرنے والے کئی عوامل ہوتے ہیں۔ اس طرح صحت کا اندازہ کرنے کے کئی اشاریوں (Indicators) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان اشاریوں میں اموات، امراض، معدودی کی شرح، تغذیاتی صورت حال، صحت خدمات اور ان کی فراہمی، استفادہ، صحت پالیسی (Health Policy) اور معیار زندگی (Quality of life) اور غیرہ شامل ہیں۔

10A.5 تغذیہ اور صحت (Nutrition and Health)

تغذیے اور صحت کا بڑا اقਰبی تعلق ہے۔ سب کے لیے صحت کے عالمی پروگرام میں، تغذیے کا فروع بنیادی عناصر میں شامل ہے۔ تغذیے کا تعلق جسمانی اعضا اور بافتوں کی ساخت اور ان کے کاموں کی دیکھ بھال سے ہے۔ یہ جسم کی نشوونما سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اچھا تغذیہ لوگوں کو صحت مندانہ زندگی کرانے، جراثیم زدگی (Infection) سے مقابلہ کرنے، تو انائی کی مناسب سطح برقرار رکھنے اور اپنے سارے کام تجھکن محسوس کیے بغیر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کی نشوونما، ڈھنی نمو اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں تغذیے کی بڑی اہمیت ہے۔ بالغ افراد کو سماجی اور اقتصادی طور پر مفید اور صحت مندانہ زندگی گزارنے کے لیے کافی مقدار میں تغذیہ بہت ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کی تن درستی اور صحت اس شخص کی تغذیاتی اور تغذیاتی ضرورتوں کو تعین کرتی ہے۔ بیماری کے دوران ایک طرف تغذیاتی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں تو دوسری طرف تغذیاتی اجزا بہت ضائع ہوتے ہیں۔ اسی لیے بیماری اور مرض تغذیاتی حالت پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے تغذیہ انسانی زندگی، صحت اور ترقی 'بنیادی ستون' ہے۔

150

10A.6 تغذیاتی عناصر (Nutrients)

غذاوں میں تقریباً 50 سے زیادہ تغذیاتی عناصر ہوتے ہیں۔ تغذیاتی عناصر کو انسانی جسم کے لیے ان کی ضروری مقداروں کی بنیاد پر کثیر تغذیاتی عناصر (Macronutrients) (جن کی نسبتاً زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے) اور قلیل تغذیاتی عناصر (Micronutrients) (جن کی کم مقدار میں ضرورت پڑتی ہے) میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ چربی، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور ریشے (Fibre) عموماً کثیر تغذیاتی عناصر کا حصہ ہوتے ہیں۔ قلیل تغذیاتی عناصر میں معدنیات مثلاً لوما، جست (Zinc)، سلی نیم (Selenium) جیسی دھاتیں اور چربی اور پانی میں تخلیل ہو جانے والے وہاں ن شامل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک بہت اہم کام انجام دیتا ہے۔ کچھ تغذیاتی عناصر جسم میں ہونے والے مختلف استحلاطی (Metabolic) افعال میں معاون عاملوں (Co-Factors) اور معاون خامروں (Co-enzyme) کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ عناصر جس کی تثیل اور اندران (Transcription) میں بھی موثر

ہو سکتے ہیں۔ مختلف اعضا اور نظام مغذيات کے ہضم، انجذاب، استحالے (Metabolism) ذخیرے اور اخراج اور ان کے استحالے کے نتیجے میں انھیں آخری شکل دینے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دراصل جسم کے تمام حصوں کے خلیے کو تغذیاتی عناصر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک عام صحت مندرجہ بدنی حالت میں ان عناصر کی ضرورت عمر، صنف اور عضویاتی حالت (Physiological state) کے مطابق الگ الگ ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر نہ وہ نما کے مختلف ادوار جیسے شیرخواری، بچپن، نوجوانی اور عورتوں میں حمل و رضاعت کے دوران یہ ضرورت الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر جسمانی سرگرمی کی سطح بھی تو انائی اور تو انائی کے استحالے میں شامل تغذیاتی عناصر مثلاً تھائی میں اور ریبو فلے و نی جیسے وٹا منوں کی ضرورت کو معین کرتی ہے۔

تغذیاتی عناصر، ان کے استحالے، ذرائع اور ان کے کاموں کی معلومات، بہت اہم ہے۔ ہر شخص کو ایسی متوازن غذا کھانی چاہیے جس میں مطلوب مقدار میں تمام ضروری تغذیاتی عناصر موجود ہوں۔

تغذیے کی سائنس کا تعلق زندگی، نشوونما اور سلامتی کے لیے غذا اور تغذیاتی عناصر کے حصول، فراہمی اور استعمال سے ہے۔

ماہرین تغذیہ (اس شعبہ میں کام کرنے والے پیشہ ورانہ

ماہرین) کا تعلق صحت و تن درستی کے بہت سے

پہلوؤں سے ہے۔ ان میں جیاتیاتی اور استھاتا لی پہلو

اور امراض کی مختلف حالتیں اور ان کے دوران جسم کو

تغذیے کی فراہمی کے طریقے (کلینیکل تغذیہ)

شامل ہیں۔ تغذیے کے شعبۂ علم کے تحت لوگوں کی

تغذیاتی ضروریات اور ان کے تغذیاتی مسائل،

تغذیاتی عناصر کی کمی سے پیدا ہونے والے مسائل

(عوامی تغذیہ) اور دل کے امراض، ذیا بیطس، سرطان

اور ہائپر ٹینشن جیسی بیماریوں کی روک تھام کا مطالعہ کیا

جاتا ہے۔

ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کا کھانا کھانے کا بھی نہیں کرتا۔ ایک شخص کیا اور کس طرح کھاتا ہے یہ

بات صرف اس شخص کے ذاتی پڑھی مخصوص نہیں بلکہ اس میں دوسرے عوامل بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، مثلاً غذا کی فراہمی (غذا کی تحفظ)

جس کا قریبی تعلق قوت خرید (اقتصادی پہلو) سے ہے، ماحولیات (پانی اور آب پاشی) اور قومی و مین الاقوامی پالیسیاں۔ تہذیب،

نمہب، سماجی حالت یا مرتبہ، عقیدے اور ممنومات (Taboos) بھی ہماری غذائی پسند اور ناپسند، مقدار غذا اور تغذیاتی حالت کو متاثر

کرتے ہیں۔




شكل 1: متوازن خوراک

اچھی صحت اور تغذیہ کس طرح ہماری مدد کرتے ہیں؟: اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ صحت مندوں کے لئے کام بھی زیادہ کرتے ہیں۔ صحت مندوں کی بھروسہ کی اچھی طرح دیکھ بھال اور پروش کر سکتے ہیں۔ صحت مندوں پر عموماً خوش بھی رہتے ہیں اور اسکوں میں بھی ان کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے۔ اس طرح کوئی شخص صحت مندوں ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی زیادہ تغیری کام کر سکتا ہے اور معاشرے کی سطح پر بھی مختلف سرگرمیوں میں سرگرم حصہ لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی بھوک کام ادا کر رہا ہے یا تغذیے کی قلت کا شکار ہے تو وہ صحت مندوں اور تغیری صلاحیتوں کا حامل کس طرح ہو سکتا ہے، دوسرا لئے لوگوں کے ساتھ مل جل کر کیسے رہ سکتا ہے اور سماج کا معاون و مددگار فرد کیسے ہو سکتا ہے:

جدول 1: مناسب تغذیاتی حالت بہت ضروری ہے کیوں کیا

• جراشیم زدگی کے خلاف مزاجمت پیدا کرتی ہے	• جسم کے وزن کو برقرار رکھتی ہے
• جسمانی اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے میں مدد کرتی ہے	• عضلات کے چمٹ کو برقرار رکھتی ہے
• تغیری صلاحیتوں کو ہتھ کرتی ہے	• معنوں کو جانے کا اندازہ کم کرتی ہے


152



شکل 1: تغیری صلاحیتوں کے لیے ضروری صحت اور تغذیہ کے وسائل

مختلف سماجی حالات کے سروکار اور ضرورتیں

شکل 2 سے بچوں کی تعلیم کے لیے اچھی تغذیاتی حالت کے فوائد معلوم ہوتے ہیں۔




شکل 2: بچوں کی تعلیم کے لیے اچھی تغذیاتی حالت کے فوائد

نامناسب تغذیہ کیا ہے؟ (What is malnutrition): نامناسب تغذیہ تغذیے کی عام حالت سے ہٹ جانا ہے۔ جسم کو تغذیے کی جتنی مقدار مطلوب ہوتی ہے، تغذیے کا اس سے کم یا زیادہ استعمال نامناسب تغذیہ کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح نامناسب تغذیے کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تغذیاتی قلت (Undernutrition) اور دوسری تغذیاتی کثرت (Overnutrition)۔ تغذیاتی عناصر کا ضرورت سے زیادہ استعمال تغذیاتی کثرت کا اور ناکافی استعمال تغذیاتی قلت کا سبب بنتا ہے۔ نوبلوغت میں نامناسب تغذیے کا اہم سبب غلط غذاوں کا انتخاب اور غذاوں کا غلط امتحان (Combination) بھی ہوتا ہے۔

10A.7 تغذیاتی سلامتی پر اثر انداز ہونے والے عوامل

(Factors affecting nutritional well-being)

عالیٰ صحت تنظیم (WHO) نے چار ایسے اہم عوامل کی فہرست تیار کی ہے جو تغذیاتی سلامتی کے لیے اہم ہیں (جیسا کہ یہاں دی گئی شکل میں دکھایا گیا ہے)۔



اب، ہم ان عوامل میں سے ہر ایک کا مختصر بیان کرتے ہیں۔

غذا اور تغذیے کا تحفظ: غذا اور تغذیے کے تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو (وہ کسی بھی عمر کا ہو) پورے سال مطلوبہ مقدار میں غذا اور تغذیہ حاصل ہو جاتا کہ وہ ایک صحت مندرجہ ذیل گزار سکے۔

بیماری سے جلدی متاثر ہونے والوں کی دیکھ بھال: اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کو مشقانہ نگہ داشت اور توجہ ملنی چاہیے۔ چھوٹے بچوں کے معاملے میں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بچے کو صحیح مقدار میں اور صحیح قسم کی غذا، توجہ اور دیکھ بھال حاصل ہو۔ حاملہ خواتین کے معاملے میں اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو خاندان اور سماج کی طرف سے اور کام کا جی ماوں کے معاملے میں ماکان کی طرف سے دیکھ بھال اور تعاوون ملنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ بیمار ہوں، ان کو بھی مختلف طریقوں سے نگہ داشت اور تعاوون ملنا چاہیے۔ مثلاً غذا، تغذیہ اور طبی مدد وغیرہ۔

سب کے لیے صحت سب کے لیے صحت، میں بیماریوں کی روک تھام اور بیمار ہو جانے کی صورت میں بیماری کا علاج شامل ہے۔ متعدد بیماریوں کی صورت میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیوں کہ ان بیماریوں کے سبب جسم میں تغذیاتی عناصر ختم ہو جاتے ہیں جس سے اور تغذیاتی حالت کمزور ہو جاتی ہے۔ ہر شہری کا حق ہے کہ اسے صحت کی کم سے کم نگہ داشت ضرور حاصل ہو۔ صحت انسان کا بنیادی حق ہے۔ اسہال (Diarrhoea) سانس کی بیماریاں، خسرہ، ملیریا اور تپ دق یا ایسی جیسی بیماریاں ہندوستان میں، خاص طور پر چھوٹے بچوں میں، عام ہیں، جوموت کا سبب بھی بنتی ہیں۔

محفوظ ماہول: محفوظ ماہول میں ماہول کے تمام پہلو اور ایسی جسمانی، حیاتیاتی اور کیمیائی اشیاء شامل ہیں جو صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ محفوظ ماہول میں محفوظ پینے کا پانی، صاف غذا اور ماہولیاتی آلوگی اور تباہی (Degradation) کی روک تھام شامل ہے۔

10A.8 تغذیے کے مسائل اور ان کے نتائج (Nutritional Problems and their Consequences)

ہندوستان کے لوگوں کو تغذیے سے متعلق کئی مسائل کا سامنا ہے۔ ان میں سب سے بڑا مسئلہ تغذیاتی قلت کا ہے۔ ہندوستان میں یہ صورت حال حاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ ہے جو قلت تغذیہ کی خود بھی شکار ہیں اور ان کے بچوں کا وزن بھی پیدائش کے وقت کم ہوتا ہے۔ ایسے بچوں (تین سال سے کم عمر والے) کم وزن بچوں کی نشوونما بھی رک جاتی ہے۔ ہندوستان میں پیدا ہونے والے ایک تہائی بچے پیدائش کے وقت کم وزن کے ہوتے ہیں یعنی ان کا وزن 2500 گرام سے کم ہوتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کے جسم کا وزن کم رہتا ہے۔ تغذیے سے تعلق رکھنے والی کچھ اور خرابیاں بھی ہوتی ہیں جیسے لوہے کی کمی پر می خون کی کمی (Anaemia)، وٹامن A کی کمی (جس کے نتیجے میں نابینائی پیدا ہو جاتی ہے)، آئوڈین کی کمی وغیرہ۔ قلت تغذیے سے کئی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

تغذیاتی قلت (undernutrition): تغذیاتی قلت سے جسم کا وزن لگٹ جاتا ہے، دوسرے سب سے خطناک اثر یہ پڑتا ہے کہ بچوں کی ذہنی نمو (cognitive development) اور ان کا دفاعی نظام متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ موٹانے ائے کی کمی کی وجہ سے اندر چین میں جیسی معذوری پیدا ہو سکتی ہے۔ آبیڈین کی کمی بھی خاص طور پر حاملہ خواتین اور بچوں کی صحت اور ان کی نشوونما کے لیے ایک بڑا خطرہ ہوتی ہے کیوں کہ اس کی وجہ سے حاملہ عورتوں کو اسقاط ہو جاتا ہے، پچھے مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ بچوں کو گھینگا (goitre) ہو جاتا ہے، وہ گونے بہرے ہو جاتے ہیں، ذہنی طور سے معذور ہو جاتے ہیں یا پیدائشی طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں۔

لو ہے کی کمی کا بھی صحت اور سلامتی پر منفی اثر پڑتا ہے۔ شیر خوار اور چھوٹے بچوں میں لو ہے کی کمی کی وجہ سے نفسی حرکی (psychomotor) کے صلاحیت کے فروغ اور ذہنی نمو میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور اس طرح علمی و تعلیمی کارکردگی بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے۔ لو ہے کی کمی سے جسمانی سرگرمی بھی کم ہو جاتی ہے۔ حمل کے دوران اس سے جنین (foetus) کی نشوونما متاثر ہوتی ہے اور ماں کی بیماری اور موٹ کا اندیشہ بھی بڑھ جاتا ہے۔

تغذیاتی قلت کے ساتھ تغذیاتی کثرت بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ تغذیائی عناصر کی کثرت سے صحت کے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ تغذیائی عناصر کی کثرت سے سمیت (toxicity) پیدا ہو جاتی ہے اور نتیجتاً وزن بڑھ جاتا ہے اور موٹاپے کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ موٹاپے سے کئی بیماریوں جیسے ذیابتیں، امراض قلب اور ہائی پریسچن وغیرہ کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ ہندوستان میں ہمیں دونوں قسم کے مسائل درپیش ہیں یعنی قلت تغذیہ سے متعلق بھی اور کثرت تغذیہ سے متعلق بھی۔ قلت تغذیہ سے تغذیائی خامیاں (Nutritional deficiencies) پیدا ہوتی ہیں اور کثرت تغذیہ کی وجہ سے غذا سے متاثرہ مستقل اور غیر متعدد امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس صورت حال کو (جس میں تغذیہ کی قلت اور کثرت دونوں ہوں) ”نامناسب تغذیے کا دو طرفہ بار“ (Double burden of malnutrition) کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں تیسرے نیشن ایڈنٹیٹیل ہیلتھ سروے کے مطابق شہری علاقوں کے 28.9 فیصد مرد اور 22.2 فیصد عورتوں کا وزن زیادہ ہے یا پھر وہ موٹاپے کے شکار ہیں۔ یہ فیصد شرح دیہی مردوں میں (8.6%) اور عورتوں (7.3%) میں کافی کم ہے۔

تغذیہ اور جراحتیم زدگی (Nutrition and Infection): تغذیہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ناسیب مقدار میں غذا مہیا کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اس میں ماحول کا اثر بھی اہم ہوتا ہے۔ تغذیاتی عناصر اور غذا کی بھرپور مقدار میں فراہمی پر ہی تغذیے کا انحصار نہیں ہے بلکہ بڑی حد تک اس بات پر بھی ہے کہ کسی کی صحت کیسی ہے؟ تغذیہ اور جراحتیم زدگی کا قریبی تعلق ہے۔ اگر کسی کی صورت حال خراب اور ناکافی ہے تو اس کی مزاجمت اور دفاع کی صلاحیت میں گراوٹ آئے گی اور نتیجتاً جراحتیم زدگی کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اس کے برخلاف جراحتیم زدگی کے دوران جسم (قے اور دست وغیرہ کے ذریعے) تغذیاتی عناصر کی کافی مقدار کو کھو دیتا ہے جب کہ اس کی تغذیاتی عناصر کی ضرورت حقیقتاً بڑھ جاتی ہے۔ اگر بھوک کی کمی یا (الٹی، قے ہوتا نہ کھا سکنے کی وجہ سے، تغذیائی عناصر کی اتنی مقدار جسم کو نہیں ملے گی جتنا اس کو ضرورت ہے اور اس طرح جراحتیم زدگی، تغذیاتی حالت پر بہت برا اثر ڈالے گی۔ ایسی صورت میں

مزید جراشیم زدگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور تمام لوگوں خاص طور پر بچوں اور بوڑھوں اور قلت تغذیہ کے شکار لوگوں کے لیے جراشیم زدگی اور بیماری کا خطرہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔

ترقی پذیر ملکوں میں نذاؤں کے سبب لگنے اور پھیلنے والی بیماریاں (جیسے اسہال، پچھ) بہت بڑا منسلک ہیں کیونکہ ان سے جسم میں پانی کی کمی (Dehydration) ہو جاتی ہے جس سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سی متعدد اور چھوٹ کی بیماریاں ماحولیاتی آلوگی، گھر کی گندگی، ذاتی اور نذائی صفائی نہ ہونے سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے دیکھنا یہ ہے کہ بیماریوں کی روک تھام کیسے کی جاسکتی ہے۔


10A.9 حفاظان صحت اور صفائی (Hygiene and Sanitation)

بیماری کی روک تھام اور ان پر قابو پانے کے لیے مختلف امراض سے متعلق داخلی اور خارجی دونوں عوامل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ذیل کی جدول میں یہ دونوں عوامل دیے گئے ہیں:

جدول 2: مختلف بیماریوں سے متعلق داخلی اور خارجی عوامل	
میزان عوامل داخلی	خارجی راماحولیاتی عوامل
عمر، صفت، نسل، خاندان	طبعی ماخول: ہوا، پانی، مٹی، گھر، آب و ہوا، موسم، جغرافیائی حالات، گرمی، روشنی، شور، تاب کاری (Radiation)
حیاتیاتی (Biological) عوامل: جیسے وراثت، خون کا گروپ، خامرے (Enzymes)، خون میں شامل مختلف مادے (Substances) جیسے کولیسٹرول وغیرہ کی مقدار، مختلف اعضا اور نظاموں کے کام	حیاتیاتی ماخول میں انسان اور دیگر جاندار شامل ہیں جیسے جانور، چوہے، حشرات، پودے، جرثومے یا وائرس، خور عضویے۔ ان میں سے کچھ بیماری پیدا کرتے ہیں یعنی جراشیم زدگی کا سبب ہوتے ہیں اور امراض کے جراشیم کے میزان اور پھیلانے والے ہوتے ہیں۔
سماجی اور اقتصادی خصوصیات مثلًا پیشہ، شادی شدہ / غیر شادی شدہ ہونا، مکان	سماجی نفیسیاتی عوامل (Psychosocial factors): جذباتی صحت، ثقافتی اقدار، رسم و رواج، عادات، عقائد، طبعی میلانات، مذہب، طرز زندگی، صحت خدمات وغیرہ۔
	طررزندگی کے عوامل جیسے تغذیہ، خوارک، جسمانی سرگرمیاں، رہن سہن، نیلی اشیا کا استعمال جیسے نیلی دوائیں شراب وغیرہ

ان عوامل میں حفاظان صحت اور اصول صحت، تغذیہ اور بیماری سے مامونیت (Immunisation) بہت اہم ہیں۔ جب ہم حفاظان صحت (Hygiene) کی بات کرتے ہیں تو لازمی طور پر دو پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہیں۔ ایک ذاتی (Personal) اور دوسرا ماحولیاتی (Environmental)۔ ذیل کی شکلوں سے واضح ہوتا ہے کہ ہر ایک پہلو میں کون سے عوامل شامل ہیں۔ صحت بڑی حد تک سماجی ماخول، طرز زندگی اور رویوں بیشمول نذاؤں کے استعمال پر منحصر ہوتی ہے۔ صحت، حفاظان صحت سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ حفاظان صحت کی کمی سے مختلف طرح کے انفلکشن پیدا ہوتے ہیں، مثلاً کیڑوں سے ہونے والی جراشیم زدگی۔

ماحولیاتی حفاظان صحت (Environmental Hygiene): اس میں خانگی حفاظان صحت اور برادری کی سطحیوں پر نامیانی اور غیر نامیانی دونوں خارجی مادے شامل ہیں۔ اس میں طبیعیاتی عوامل جیسے پانی، ہوا، رہائش، تاب کاری وغیرہ اور حیاتیاتی عوامل جیسے پودے، بیکٹریا، وائرس، حشرات اور جانور شامل ہیں۔



157

شکل 3: حفاظان صحت کے ذاتی پہلو



شکل 4: حفاظان صحت کے ماحولیاتی پہلو

ماحولیاتی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ماحول کی صحت پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اس سے صحت کو فروغ ہوگا اور بیماریوں کی روک تھام ہوگی۔ ماحول کی صحت میں پینے کا صاف پانی، مفہومی سستھانی خاص طور پر فضلے کی نکاسی وغیرہ بہت اہم ہیں۔ اسی طرح ہوا اور پانی کی آلوگی بھی بڑا منسلک ہے۔ پانی کی نوعیت بہت ہی اہم ہے کیونکہ آلوہ پانی بہت سی بیماریاں جیسے اسہال، کیڑوں سے ہونے والی جراثیم زدگی، جلد اور آنکھوں کے انفشن اور گنی ورم (Quineal worm) (وغیرہ) ہوتی ہیں۔

حفظان غذا: غذائی بیماریاں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم ایسی غذا کیں کھا لیتے ہیں جن میں بیماری پیدا کرنے والے خورد عضویے (Pathogenic micro-organisms) کی موجودگی ہوتے ہیں۔ غذائی بیماریاں کئی اسباب سے ہو سکتی ہیں:

- غذا میں کسی نامیاتی مادہ یا Toxin کی موجودگی۔
- بیماری پیدا کرنے والے عضویے کا کافی تعداد میں ہونا۔
- آلوہ غذا کا کافی مقدار میں استعمال۔

اسہال (دست آنا) پچش، ایمیباًسیس (Amoebiasis)، متعدی پپی ٹائمیٹس (Infective Hepatitis)، ٹائیفیڈ (Typhoid)، لیسٹریس یوس (Listeriosis)، بوٹولزم (Botulism)، ہیضمہ اور آنتوں کی سوزش (Gastroenteritis) غذا کی آلوگی سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں۔ ان میں سے بیشتر بیماریاں غلط غذائی عادتوں اور رذائلی بے تو چھی کے سبب پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ نیچے کہا گیا ہے۔

■ ایسی غذاوں کا استعمال جو خراب ہو گئی ہوں، جن میں جراثیم پیدا ہو گئے ہوں اور غیر محفوظ یا ناقابل استعمال ہوں۔ ان میں پانی، مسالے، موکی پھل اور سبزیاں اور مرکبات (Mixes) وغیرہ بھی شامل ہیں۔

■ نامناسب ذخیرہ کاری سے بھی بیماری پیدا کرنے والے خورد عضویوں کی افزایش ہوتی ہے۔

■ کیڑوں کی روک تھام نہ ہونا

■ آلوہ برتنوں، پلیٹوں، چچوں، گلاسوں وغیرہ کا استعمال

■ غذا کو پوری طرح نہ پکانا

■ غذاوں کو ایسے درجہ حرارت (4 سے 600 سلیس) پر کھانا جو خورد عضویوں کی پیداوار کے لیے معاف ہوں

■ ٹھنڈک کا نا کافی انتظام

■ پکے ہوئے اور بچھے ہوئے کھانوں کو نا کافی طور پر گرم کرنا یا دوبارہ گرم کرنا

■ مکرر آلوگی

■ غذاوں کو گھلار کرنا

■ پلیٹوں میں غذاوں کی سجاوٹ کے لیے آلوہ چیزوں کا استعمال کرنا

■ غذاوں کی نقل و حمل، خرید و فروخت اور پکانے کے عمل سے وابستہ افراد کا حفظان صحت کا اور صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ مثلاً کیڑوں کا گندہ ہونا، ہاتھوں کا دھلانہ ہونا، ناخون وغیرہ میں میل ہونا وغیرہ۔

گھر یا گھر سے باہر کام کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے تغذیہ، صحت اور حفاظان صحت سے متعلق امور کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ اگلے باب میں ہم کام، کارکن اور کارگاہ (کام کی جگہ) کے روشنوں سے بحث کریں گے۔

کلیدی اصطلاحات

صحت کی دیکھ بھال یا نگہ داشت (Health Care)، تغذیائی عناصر (Nutrients)، نامناسب تغذیہ (Malnutrition)، حفاظان صحت اور صفائی (Hygiene and Sanitation) (Food Hygiene)

مشقین

- 1۔ درج ذیل ویب سائٹوں کو دیکھیے اور ان کے بارے میں کلاس میں گفتگو کیجیے
• بچوں کی عالمی صورت حال سے متعلق یونیسیف کی رپورٹ:
<http://www.unicef.org/sowc08/>
• انسانی ترقیاتی اشایہ:
<http://hdr.undp.org/en/statistics>
• عالمی صحت تنظیم کی عالمی صحت سے متعلق رپورٹ:
<http://www.who.in/whr/en/>
- 2۔ کم از کم 6-15 ایسے اشاریوں کی نشان دہی کیجیے جو آپ کے خیال میں صحت کے لیے اہم ہیں اور معلوم کیجیے کہ اس سلسلے میں دنیا کے ملکوں میں ہندوستان کا کون سا درج ہے۔
دیہی علاقوں کے طلباء کے لیے متبادل: اپنے گاؤں کی دو ایسی ماواں سے جن کے چھوٹے بچے ہوں افسوس کیجیے۔ ہر ایک ماں سے پوچھیے کہ پہلے ایک سال کے دوران بچے کو دستوں کی بیماری کتنی بار ہوئی۔ مانگیں جو وجہات بتائیں ان پر اظہار خیال کیجیے۔
- 3۔ صحت کی بہت سی جہات ہیں۔ کچھ ایسے کاموں یا پیشوں کو بتائیے جو صحت اور تغذیہ سے متعلق ہوں جن میں بیماریوں کی روک تھام، اچھی صحت کا فروغ اور معالجاتی خدمات بھی شامل ہیں۔

سوالات برائے نظر ثانی

- 1۔ ””تغذیہ تعمیری صلاحیتوں، آمدنی اور زندگی کے معیار پر اثر انداز ہوتا ہے“، اس بیان پر اپنی رائے لکھیے۔
- 2۔ تغذیہ کیس طرح ہنی معدودی، اندر ہنی پن اور زندگی کے معیار سے تعلق رکھتا ہے؟
- 3۔ کلاس کو گروپوں میں تقسیم کیجیے۔ ہر گروپ ان مقامات پر جائے جہاں غذائی خدمات دست یاب ہیں مثلاً کینٹین، کینٹینریا،

ریسٹوراں، ٹھیکلے اور غیرہ۔ (a) غذا کی صفائی (b) ذاتی صفائی سے متعلق امور سے لاپرواٹی کی نشان دہی کیجیے۔

4۔ کلاس میں اس بات پر مباحثہ کیجیے کہ حفاظان صحت کو کس طرح بڑھا دیا جائے اور غذا کو کس طرح محفوظ بنایا جائے۔

یا

طلبا کو تین گروپ میں تقسیم کیجیے۔ ایک گروپ ”غذا“، دوسرا ”لوگوں“ اور تیسرا ”اکاؤنٹی، سہولتوں اور ساز و سامان“ پر گفتگو کرے گا۔ ان پہلوؤں یا سرگرمیوں کی نشان دہی کے بعد جو بیماریوں کا اندیشه بڑھاتی ہیں، ان گروپوں سے انسدادی تداہیر تجویز کرنے کے لیے بھی کاملا جاسکتا ہے۔

اساتذہ کے لیے مشورہ

کچھ منتخب طلباء اسکول کے بچوں، والدین اور برادری کے لیے صحت، تغذیہ اور حفاظان صحت پر ایک نمائش کا اہتمام کریں اور اس کام میں اساتذہ ان کی رہنمائی کریں۔

طلبا کے لیے مشورہ

(a) اپنے اسکول اور (b) اپنے گھر کے نزدیک ماحول کی صفائی (Environmental Hygiene) سے متعلق کم از کم تین ایسے عوامل کی نشان دہی کیجیے جن کی درجہ بندی ”بہت ابیجن، ابیجن، ٹھیک، خراب اور بہت خراب“ کے تحت کی جاسکے۔

عملی کام 10

A۔ تغذیہ، صحت اور حفاظان صحت

درج ذیل غذا کی جدولوں میں دی گئی غذاوں کے 150 گرام خوردنی حصے میں تو انائی، پروٹین، کیلیشیم اور آئرن کی مقدار کا موازنہ کیجیے۔

(a) اناج

اناج کا نام	Kcal فی 150 گرام	پروٹین کی مقدار گرام فی 150 گرام	کیلیشیم کی مقدار mg فی 150 گرام	لوہہ کی مقدار mg فی 150 گرام
1۔ باجرہ				
2۔ چاول (خام مل میں تیار)				
3۔ کمٹی (خشک)				
4۔ گیہوں (ثابت)				

(b) دالیں

پھلی رداں کا نام	تو انائی کی مقدار گرام فنی 150 Kcal	پروٹین کی مقدار گرام فنی 150	کمیائیم کی مقدار گرام فنی 150	لوہ کی مقدار گرام فنی 150
1- بگالی چنادال				
2- کالا چنادال				
3- مسور				
4- سویا بن				

(c) سبزیاں

سبزی کا نام	تو انائی کی مقدار گرام فنی 150 Kcal	پروٹین کی مقدار گرام فنی 150	کمیائیم کی مقدار گرام فنی 150	آئرن mg فنی 150 گرام
پاک				
بینگ				
گوبھی				
کاج				

(d) پھلوں کے نام

پھلوں کے نام	تو انائی کی مقدار گرام فنی 150 Kcal	پروٹین کی مقدار گرام فنی 150	کمیائیم کی مقدار گرام فنی 150	لوہ کی مقدار گرام فنی 150
آم (پکا ہوا)				
سنترہ				
امرود (دیکی)				
پیپٹا (پکا ہوا)				

(B) - اپنے خاندان کی خوارک میں کاربوبہ انڈریٹ، پروٹین، چربی، وٹامن اے، لوہا اور کیلیشیم کی کثرت والے ذرائع بتائیے۔ کیا آپ اس میں کچھ اصلاحات بھی تجویز کریں گے؟ جواب کو ذیل کی جدول میں لکھیے۔

کیلیشیم کے ذرائع	کاربوبہ انڈریٹ کے ذرائع	لوہا کے ذرائع	وٹامن اے کے ذرائع	چربی کے ذرائع	پروٹین کے ذرائع

غذائی عادتیں جن میں اصلاح کی ضرورت ہے	تجاویز

اساتذہ کے لیے نوٹ

اساتذہ اس بات کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے علاقتے کی غذاوں کی (جو اپنے جدول میں مذکور نہیں ہیں) تنظیماتی قدر و قیمت کا تعین کریں۔ اس سلسلے میں درج ذیل کتاب جوانٹین کونسل آف میڈیکل ریسرچ (ICMR) نے شائع کی ہے، بہت مفید ثابت ہوگی۔

غذا کے تشكیلی عناصر کا جدول (Food Composition Tables)

نی 100 گرام خوردنی حصے کی تغذیاتی قدر (Nutrition value per 100g. edible portion)

اناج

نام	تو انی (Kcal)	پروٹین (g)	کیلائیم (mg)	لوہا (mg)
باجرجہ	361	11.6	42	8.0
چاول (خام، بلکا)	345	6.8	10	0.7
مکھنی (خشک)	342	11.1	10	2.3
گیوہل (ثابت)	346	11.8	41	5.3

دالیں

نام	تو انی (Kcal)	پروٹین (g)	کیلائیم (mg)	لوہا (mg)
بیگانی چنادال	360	17.1	56	5.3
کالا چنادال	347	24.0	154	3.8
مسور	343	25.1	69	7.58
سویا بن	432	43.2	240	10.4

سبزیاں

نام	تو انی (Kcal)	پروٹین (g)	کیلائیم (mg)	لوہا (mg)
پالک	26	2.0	73	17.4
پیشگن	24	1.4	18	0.38
گوکھی	30	2.6	33	1.23
گاجر	48	0.9	80	1.03

پھل

نام	تو انی (Kcal)	پروٹین (g)	کیلائیم (mg)	لوہا (mg)
آم (پاک ہوا)	74	0.6	14	1.3
سنترہ	48	0.7	26	0.32
امرود (دیسی)	51	0.9	10	0.27
پیپتا (پاک ہوا)	32	0.6	17	0.5

(ذریعہ: هندوستانی غذاوں کی تغذیاتی قدر (Nutritive Value of Indian Foods) (1985)

سی گوپالسی، بی وی رام شاستری اور ایس سی بال سبر امنیں، نظر ثانی اور تجدید شدہ (1985)، از بی ایس نرستگ

رائے، وائی جی دیو سٹھالی اور کے سی پنت (دوبارہ اشاعت 2007)

باب 10

-B کام، کارکن اور کارگاہ (Work, Worker and Workplace)

آموزشی مقاصد۔

- اس باب کا مطالعہ کرنے کے بعد طلباء کام کے اجزاء کی شناخت کر سکیں گے۔
- کام، کارکن اور کارگاہ کی تعریف بیان کر سکیں گے۔
- بہتر کارکردگی کے لیے کارگاہ کے ڈیزائن کی اہمیت پیان کر سکیں گے۔
- کام، کارکن اور کارگاہ کے درمیان باہمی انحصار کی وضاحت کر سکیں گے۔

10B-1 تعارف (Introduction)


ہم سب روزانہ گھنٹوں کام کرتے ہیں، نچے پڑھنے جاتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں تو والدین روٹی روزی کماتے ہیں اور گھر کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم سب روزانہ بہت سرگرمیاں انجام دیتے ہیں لیکن کیا آپ نے ان مختلف طریقوں کے بارے میں سوچا ہے جن سے ہم کسی ایک کام کو انجام دیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ایک کام کو تو اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں لیکن دوسرے کام اتنے اچھے ڈھنگ سے نہیں کر پاتے؟

نشا ایک ہنرمند کارگیر ہے۔ وہ اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتی کیوں کہ اس کو اپنے کام سے رغبت نہیں ہے۔ جہاں وہ کام کرتی ہے وہاں کام کا ماحول ساز گا رہنیں ہے۔ وہ جگہ آرام دہ نہیں ہے۔ جس جگہ کام کرنا پڑتا ہے وہ بھی صحیح بنی ہوئی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کا دل کام میں نہیں لگتا۔ اگر کام کے ماحول میں سدھار ہو جائے تو وہ بہتر نتائج دے سکتی ہے اور بہتر طور پر اپنے وسائل (مہارتوں اور علم) کا استعمال کر سکتی ہے۔ کام کے ماحول کے علاوہ اور بھی ایسے عوامل ہو سکتے ہیں جو اس کی کارکردگی کو متاثر کر رہے ہوں۔ آئیے ہم ان عوامل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

اچھی کارکردگی کے لیے اہم بات یہ ہے کہ ہم کام کو اس ماحول کے تعلق سے بھی جہاں یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں تو استعمال ہونے والی تو انائی اور کام پر لگنے والا وقت دونوں کم ہو جائیں گے اور کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے نہ تو تکلین ہوگی اور نہ ہی صحت سے متعلق دیگر پریشانیاں۔ کسی کارگر کو غیر آرام دہ ماحول میں کام کرنے پر مجبور کرنے کے بجائے اس کے لیے ایک صحت مند ماحول پیدا کرنا ضروری ہے۔

مثال کے طور پر، آپ کی ماں باور پی خانے میں کام کرتی ہیں اور انھیں برتن اٹھانے کے لیے بار بار جھکنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ برتن کچن کاؤنٹر سے ذرا فاصلے پر رکھے ہوں۔ اس صورت میں برتن اٹھانے کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا اور ان کی تو انائی بھی زیادہ صرف ہوگی۔ اس کے علاوہ تکلین اور کمر درد بھی ان کے حصے میں آئیں گے۔ اس کے برعکس اگر برتن کاؤنٹر کے قریب اور کسی مناسب اونچائی پر رکھ دیے جائیں تو وہ اپنا کام آرام سے کر سکتیں گی اور اس طرح ان کی کام کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔

کارکن



کام کرنے کی جگہ

شکل 1: کام، کارکن اور کام کرنے کی جگہ کے درمیان رشتہ

دی گئی شکل کام، کارکن (Worker) اور کام کرنے کی جگہ کے درمیان باہمی انصصار کو واضح کر رہی ہے۔ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تینوں اجزاء (کام، کارکن اور کام کرنے کی جگہ) کا تفصیلی مطالعہ ضروری ہے۔

کام 10B-2 (Work)

کام کرنے کی جگہ اور استعمال میں آنے والے دیگر ساز و سامان کے درمیان ایک بہتر تعلق پیدا کرنے کے لیے 'کام' کو سمجھنا ضروری ہے۔ کام کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ”یہ ایسی سرگرمی ہے جس کا مقصد کچھ بنانا یا کچھ کرنا ہے“۔ کام کسی کے تفویض کر دہ دیے گئے کام کو انجام دینے یا پورا کرنے کے لیے جسمانی اور ذہنی کوشش ہے۔ یہ ہمارے مقاصد کی تکمیل کی بنیاد ہے۔ یہ ایک فرض

(Duty)، ایک مقصد (Task) یا ایک سرگرمی (Activity) ہے جسے انجام دیا جانا ہے۔ مثلاً طالب علم کا کام بنیادی طور پر حصول علم ہے۔

کام بہت سے چھوٹے چھوٹے کاموں (Jobs)، تفویض کردہ کاموں (Tasks) اور تفویض کردہ ذیلی کاموں (Sub-tasks) پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سب مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آلات اور ذراائع کا کام کرتے ہیں لیکن مقاصد اور ذیلی مقاصد کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہر شخص کو اپنے مقاصد کا پورا علم ہونا چاہیے ورنہ کام کو نقصان پہنچ گا۔

انجام دیا گیا کام معیاری اس وقت ہو گا جب

- (a) کام کرنے والا اپنے مقصود سے اچھی طرح واقف ہو
- (b) کام کرنے والا اپنی تیکین کے لیے کچھ معیار مقرر کر لے
- (c) مقصد کے مطابق دیے ہوئے کام کو انجام دیا جائے

بہر حال ”وقت“ اور ”مطلوبہ توجہ“ جیسے کچھ اور تو تیں ہیں جو تفویض کردہ کاموں (tasks) کی انجام دہی میں موثر ہوتے ہیں۔

اس سے نہیں کے لیے ”کام کو آسان کرنا“ ضروری ہے۔ وقت اور توانائی کا صحیح بندوبست ہی کام کو آسان بناتا ہے۔ کام کو آسان بنانے کی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے کہ یہ ایک مقررہ توانائی اور وقت میں زیادہ کام کرنا ہے۔

اس طرح یہ کسی سرگرمی کو آسان اور شاید دل چسپ بنا دینے کے لیے بھی لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سرگرمی یا کام کو پسند کرتا ہے تو اس میں بہت دل چسپی لیتا ہے اور اس کو جلد اور بہت بڑی مہارت کے ساتھ پورا بھی کر لیتا ہے۔ (اس موضوع پر آپ اگلے باب میں تفصیل سے پڑھیں گے)۔

10B-3 کارکن (Worker) (کام کرنے والا)

کارکن وہ شخص ہے جو بعض پیداواری متناسق حاصل کرنے کے لیے کوئی کامنچی یا سرگرمی انجام دیتا ہے۔ کوئی طالب علم جو اپنے اسکول کا کام کرتا ہے اور کوئی خانہ دارخاتون جو گھر کی صفائی کرتی ہے۔ کارکن کی مثالیں ہیں۔ جب کوئی فرد کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو اس میں درج ذیل پہلو ہوتے ہیں:

جسمانی (Physical)

اس کا تعلق کارکن کے جسم سے ہے۔ اس میں انسانی توانائی، جسمانی سرگرمی اور نشوونما شامل ہیں۔

توانائی: زندہ رہنے اور کام کرنے کے لیے تو انائی ضروری ہے۔ یہ تو انائی کہاں سے آتی ہے؟ تو انائی اس غذا سے ملتی ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ ہماری غذائی ضرورتوں کا انحصار مختلف عوامل جیسے عمر، صنف، جسم کی ساخت، کام کی نوعیت اور کام کی مدت پر ہے۔

جسمانی سرگرمی: کسی بھی شخص کو کام کرنے کے لیے تو انائی کی کتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اس کا انحصار اس شخص کی عمر، صنف،

کام کی نوعیت، کام کی شدت اور کام کی مدت پر ہوتا ہے۔ کام میں جتنے زیادہ عضلات (Muscles) استعمال ہوں گے اور کام کی مدت جتنی طویل ہوگی تو انائی کی ضرورت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔

ذیل میں دی گئی جدول ان مختلف مشترک سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے ضروری تو انائی کو دکھاتی ہے جنھیں ہم سبھی روزمرہ

زندگی میں انجام دیتے ہیں:

جدول 1: کچھ مشترک سرگرمیوں میں استعمال ہونے والی تو انائی (Energy Costs)				
نی منٹ فی کلوگرام وزن جسم				
نمبر شمار	عام شخصی سرگرمیاں	سرگرمی	مرو	عورتیں
1	سونا		1	1
2	لیٹنا		1.2	1.2
3	خاموش بیٹھنا		1.2	1.2
4	کھڑے رہنا		1.4	1.5
5	لباس کی تبدیلی اور آرائیگی		2.4	1.6-3.3
	چوٹی باندھنا			1.8
7	کھانا پینا		1.4	1.6
8	آہستہ چلانا		2.8	3
گھر یلو کام کا ج				
1	جھاڑو دینا			7.6
2	پوچھا کرنا			12.2
3	کپڑے دھونا			10.5
4	استری کرنا			7.9
5	کھانا پکانا			6.4
6	پانی بھرنا			13.9
7	مسالے پینا			9.7

Source: Varghese, M.A., Atreya, N., Bhatnagar, A., & Chatterji L. (1989) : Ergonomics in the home, DRS Report, Mumbai, S.N.D.T. Women's University

نشوونما کے لیے بھی تو انائی ضروری ہے۔ اس لیے جب عمر کے کسی خاص حصے میں نشوونما کی رفتار تیز ہوتی ہے تو تو انائی کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے شیرخواروں، بچوں اور نو بالغوں کو زیادہ تو انائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

ادراکی (Cognitive)

ادراکی یا ذہنی پہلو کسی کارکن کی نفسیاتی خصوصیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ خصوصیات رویوں، مہارتوں اور معلومات وغیرہ کی ہیں۔ مقاصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں اہلیت اور میلان طبع (Aptitude) کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی خاص موضوع کو حاصل کرنے، رسی تربیت اور مستقل مشق کے ذریعے مہارتوں کو فروغ دینے اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے آمادگی یا ذہنی رجحان (Attitude) کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہل کی مثال سے ثابت ہٹنی رجحان کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

شوبرا ایک با صلاحیت نوجوان لڑکی ہے۔ اس کا تخیل زرخیز ہے اور اس میں ڈرائیور کی صلاحیت ہے۔ شوبرا مصور (Artist) بننا چاہتی ہے۔ اس نے ایک کورس میں داخلہ لیا اور اس طرح اپنی صلاحیتوں کو فروغ دیا اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مطلوبہ علم حاصل کر لیا۔ اس نے اپنی کوششوں، سخت مہنت اور درست یاب وسائل کی مدد سے ایک کامیاب آرٹ ٹیچر بننے کا مقصد حاصل کر لیا۔

جذباتی (Affective)

اس میں کام کے بارے میں کسی کارکن کی پسند، ناپسند اور ترجیحات شامل ہیں۔ اس جذباتی پہلو کا تعلق کسی سرگرمی کے بارے میں کارکن کے ذاتی جذبات و احساسات اور مقاصد کے حصول کے لیے اس کی اپنی کوششوں سے ہے۔ کام سے بے اطمینانی تھکن کا احساس پیدا کرتی ہے اور کام کے بارے میں تسلی کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔

168

وقت کے استعمال کا پہلو (Temporal)

اس کا تعلق وقت کے صحیح استعمال سے ہے۔ کبھی کبھی ایسی سرگرمیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جن کو کوئی شخص ایک متعین وقت میں انجام دینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وقت کا بہتر طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ اگلے باب میں پڑھیں گے۔

اس طرح کارکنوں کی ان خصوصیات کو سمجھنا اس بات کا اشاریہ (Indicator) ہے کہ ہر کارکن دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور اس کی جسمانی، ادراکی، جذباتی اور وقت کے استعمال کی صلاحیتیں بھی الگ ہوتی ہیں۔ کام کرنے کا آلات، ساز و سامان اور کام

سرگرمی 1

مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت آنے والی سرگرمیوں کی فہرست تیار کیجیے۔

- وہ جسمانی سرگرمیاں جن میں فاضل توانائی خرچ ہوتی ہے۔
- وہ سرگرمیاں جن میں ذہنی کام اور مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
- وہ سرگرمیاں جن میں آپ پسند کرتے ہوں یا ناپسند کرتے ہوں۔
- وہ سرگرمیاں جن میں وقت کا مناسب استعمال ضروری ہو۔

کرنے کی جگہ ایسی ہونی چاہیے جو کارکن کے جسم کی ساخت کے لحاظ سے بنائی گئی ہو۔ مثال کے طور پر قیچی جیسے اوزار ایسے بننے ہوں جو دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ سے کام کرنے والوں کے لیے موزوں ہوں۔ اس کے علاوہ آلات اور اوزار ایسے بھی ہوں جو کارکنوں کی حفاظت کو دھیان میں رکھ کر بنائے گئے ہوں۔

10B.4 کارگاہ (Workplace)

کارگاہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی کارکن کام کرتا ہے۔ اسکوں، پڑھنے کا کمرہ اور باورپی خانہ وغیرہ بھی کارگاہ یا کام کی جگہیں ہیں۔ کام کرنے کے ناساز گار ماحول سے پیدا شدہ صحت کی خرابیوں سے بچنے کے لیے کارگاہ کو اچھی طرح تیار کیا جانا بہت اہم ہے۔ یہ اچھی پیداواریت اور اچھی کارکردگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ کام کی جگہ کارکن اور کام کی نوعیت دونوں کو ذہن میں رکھ کر تیار کی جانی چاہیے تاکہ کام، سکون، آرام اور لیاقت کے ساتھ کم سے کم تو انائی خرچ کر کے انجام دیا جاسکے۔
کارگاہ درج ذیل عناصر پر مشتمل ہوتی ہے:

طبیعی اور کیمیائی ماحول (Physical and Chemical Environment)

کام کرنے کی جگہوں پر کئی قسم کے طبیعی اور کیمیائی عوامل کارفرما ہوتے ہیں۔ ہم ان عوامل کے زیر اثر آنے سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتے لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری صحت پر برا اثر نہ پڑے۔

169

وہ ماحولیاتی عوامل جن کا کارگاہ کے انتخاب یا اس کو تیار کرتے وقت خیال رکھنا ضروری ہے، درج ذیل ہیں:

- **شور:** کام کرتے وقت زیادہ شور ہماری توجہ کام کی طرف سے ہٹا دینا ہے۔ شور گھر میں بھی ہو سکتا ہے (جیسے ٹی وی کی زیادہ تیز آواز، پریشر کگر کی سیٹی، ٹونٹی سے پانی کے بہنے کی آواز یا ماشینوں وغیرہ کی آوازیں) یا باہر سے بھی آ سکتا ہے (جیسے سڑک کا ٹریفک، لاڈاپسٹکر، کوئی جلوس وغیرہ)۔
- **روشنی:** کام کرنے کی جگہ پر روشنی کا مناسب بندوبست ہونا چاہیے۔ روشنی کی مقدار کا انحصار کام کی نوعیت، کارکن کی عمر، سرگرمی کی مدت، روشنی کے ذریعے سے دوری اور کام کی جگہ پر مختلف رنگوں کی موجودگی پر ہوتا ہے۔
- **آب و ہوا:** آب و ہوا کو متاثر کرنے والے چار اہم عوامل ہیں: ہوا کی حرارت، ٹھنڈی اور گرم سطحوں کے شعاع ریزی (Radiation) کی حرارت، ہوا کی رفتار اور اضافی رطوبت (Relative Humidity)۔ ان عوامل کا اثر کارکن کی تو انائی کی لگت (Energy Cost) پر بھی ہوتا ہے۔ اندروںی آب و ہوا کو مصنوعی ذرائع مثلاً جیسے پنچھے، ایگزاسٹ فین، روم ہیٹر، کولا اور ایکنڈیشنر وغیرہ سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
- **شعاع ریزی (Radiation):** جیسا کہ آپ طبیعت (Physics) یا کیمیا (Chemistry) میں پڑھ چکے ہوں گے، جب کوئی مادہ (Substance) ایسی شعاعوں یا موجوں (Waves) کو خارج کرتا ہے جن کی نوعیت برقرار مفہومی (Electromagnetic) ہوتی ہے تو اس کو شعاع ریزی (Radiation) کہا جاتا ہے۔ اس کے بعض اثرات مفید

ہوتے ہیں اور بعض نقصان دہ بھی۔ شعاع ریزی کی افادیت یا مضر ت کا انحصار اس کی قسم (الفا، بیٹا، گاما، ایکس۔ ریز، یو وی ریز)، اس کی شدت اور اس کے زیر پر آنے کی مدت پر ہوتا ہے۔

■ **خود حیاتیاتی آلودگی (Microbiological Pollution):** ہم ہمیشہ ماہول میں موجود خود عضویوں کی زد میں رہتے ہیں کیوں کہ یہ ہوا، پانی، غذا اور ہمارے جسموں میں موجود رہتے ہیں۔ اگر لوگ حفاظان صحت اور صفائی سہرائی کا اعلاء معیار قائم نہیں رکھتے تو اس سے جراثیم سپھلتے ہیں۔ اگر یہ جراثیم نقصان پہنچانے والے ہوں تو ان سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اس شخص کو جو کھانا پکارہا ہے اسے اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہئیں ورنہ ہاتھوں پر موجود جراثیم کی وجہ سے کھانا آلو دہ ہو جائے گا۔

■ **کیمیائی مادے (Chemical Substances):** ہم ہر وقت رقین، گیس، بخارات، دھول یا لٹھوں مادوں کی شکل میں ماہول میں موجود کیمیائی مادوں سے گھرے رہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کارکن کے لیے بے چینی کا سبب بھی ہن سکتی ہیں اور صحت کے لیے خطرہ بھی۔

کارگاہ کی ساخت (Work surface)

کام کرنے کی جگہ کے طبعی اور کیمیائی ماہول کے علاوہ کارگاہ کی ساخت یا سطح بھی کارکن کے آرام اور اس کی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ اس کا تعلق کام کی جگہ کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی سے ہے۔ مناسب اسٹورنچ ڈیزائن اور آلات کی مناسب ڈیزائن (Equipment Design) بھی ایسے اہم عوامل ہیں جو کارگاہ کے ڈیزائن کو متاثر کرتے ہیں۔ کارگاہ تیار کرتے وقت مندرجہ ذیل نکات کو پیش نظر رکھنا چاہیے:

- کیا اہم کام کیے جائیں گے؟
- یا اہم کام کس طرح کیے جائیں گے؟
- کتنے کام کیے جائیں گے؟
- کام کس ترتیب سے کیے جائیں گے؟

کام کرنے کی جگہ کا تعلق کام کرنے کی مخصوص جگہوں (Workstation)، ساز و سامان اور کارکن کی جسمانی حالتوں (Body positions) سے ہے۔ کام کرنے کی جگہ کا ڈیزائن اچھا ہو تو ایک ہی جگہ بیٹھنے رہنے بعض کاموں کی تکرار اور بے ڈھنگ انداز سے بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی صورت حال کم پیدا ہوتی ہے جس سے کام کی کیفیت اور معیار میں بہتری آتی ہے۔

ایک اچھی کارگاہ کا نقشہ بناتے وقت مندرجہ ذیل نکات کوڈھنے میں رکھنا چاہیے:

- آلات، اوزار اور دیگر سامان ایسی جگہوں پر اور اس انداز میں رکھے ہوں کہ کارکن ان تک آسانی سے پہنچ سکے۔ مثال کے طور پر، باور پچی خانے میں استعمال ہونے والے برتن اور دھلے ہوئے برتن واش بیسین (Wash Basin) یا ایسی ہی کسی اور جگہ

الگ الگ رکھے ہوئے ہوں۔ دھونے کے صابن اور کلینیز وغیرہ بھی اس طرح رکھے ہوں کہ برتن دھونے والے کے ہاتھ ان تک پہنچ سکیں۔

- چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کام کرنے کی بخ مشقت طلب کاموں کے مقابلے ذرا نیچی ہوئی چاہیے۔
- ہاتھ کے اوزار اور دیگر آلات آرام دہ جگہ پر رکھے ہوں اور اس طرح کان سے چوت لگنے کا اندر یشہ نہ ہو۔
- کوئی اہم کام کرتے وقت، کارکن کو تکلیف دہ حالت میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے مثلاً زیادہ دریتک جھکنا۔
- بیشتر کام ایسے ہوتے ہیں کہ کارکن کو اپنی کارگاہ پسند کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ پھر بھی وہ اپنی کارگاہ کو اپنی ضرورتوں کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔

طالب علم کی اچھی طرح تیار کی گئی کارگاہ (مطالعے کا کمرہ) ایسی

سرگرمی 2

ہوئی چاہیے جس میں پڑھنے کی جگہ روشن ہو، میز رکھی جاسکے، کمرے کا درجہ حرارت آرام دہ ہو اور اس میں شور نہ ہو۔ اگر کرسی استعمال کی گئی ہے تو وہ نہ زیادہ اوپنجی ہونے زیادہ پنجی بلکہ مطالعے کی میز کی اوپنی کے مطابق ہو، کتابیں اور اسٹیشنری کی درازیں قریب ہوں تاکہ طالب علم لحاظ رکھیے۔ آسانی سے ان تک پہنچ سکے۔

کام، کارکن اور کارگاہ کے درمیان تعلق کو وقت اور جگہ (Time and space) کے وسائل کے مناسب استعمال سے تقویت دی جاسکتا ہے۔ ہم آئندہ باب ”وسائل کی دست یابی اور ان کا بندو بست“ کے زیر عنوان دونوں اہم وسائل پر گفتگو کریں گے۔

کلیدی اصطلاحات:

کام (Work)، کارکن (Worker)، کارگاہ (Workplace)، تو انائی کی لاگت (Energy cost)

سوالات برائے نظر ثانی

- 1۔ کام کیا ہے؟ کام کے اجزاء کے بارے میں بتائیے۔
- 2۔ کون کون سے عناصر کام کی لیاقت کو بڑھاتے ہیں؟
- 3۔ ان محولیاتی عوامل سے بحث کیجیے جو طالب علم کے کام سے متعلق سرگرمیوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔
- 4۔ آپ کام، کارکن اور کارگاہ کے باہمی انعام کی وضاحت کس طرح کریں گے؟

باب 10

C - وسائل کی دست یابی اور انتظام کاری

(Resource Availability and Management)

آموزشی مقاصد

اس باب کے مطالعے کے بعد طلباء۔

- وقت اور جگہ کو ضروری وسائل کی حیثیت سے بیان کر سکیں گے۔
- وقت اور جگہ کے انتظام کی ضرورت کا تجزیہ کر سکیں گے۔
- وقت اور جگہ کی انتظام کاری کے طریقوں پر بحث کر سکیں گے۔
- وقت کی انتظام کاری کے آلات سے بحث کر سکیں گے۔
- جگہ کی منصوبہ بندی کے اصولوں کی وضاحت کر سکیں گے۔

جیسا کہ آپ پچھلے باب میں پڑھ چکے ہیں، املاک، اشیا اور پیسہ ایسے وسائل ہیں جن کا استعمال اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بیسہ، وقت، جگہ اور تو انائی وسائل کی کچھ مثالیں ہیں۔ یہ وسائل فرد کے لیے اٹاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ وسائل و افر مقدار میں بہت کم فراہم ہوتے ہیں اور ہر شخص کو یہاں طور پر دست یاب نہیں ہوتے۔ اس لیے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے تمام وسائل کا مناسب استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ وسائل ضائع ہو جائیں یا ان کا مناسب استعمال نہ کیا جائے تو ہمیں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مشکل ہو گی۔

وسائل کا بروقت اور موثر استعمال ان کی بھر پور افادیت کو بڑھاتا ہے۔ اس باب میں آپ وقت اور جگہ کی انتظام کاری کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک دیلے کے طور پر میے اور اس کی انتظام کاری کے بارے میں یونٹ 4 میں روشنی ڈالی جائے گی۔

10C-1 وقت کی انتظام کاری (Time Management)

وقت محدود ہوتا ہے اور لوٹ کر نہیں آتا۔ ہم وقت کی پیمائش سال، مہینوں، دنوں، گھنٹوں، منٹوں اور سینڈوں میں کرتے ہیں۔ ہمیں ہر دن چوبیس گھنٹے ملتے ہیں جنہیں ہم اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس وقت کا استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ اگر وقت کا استعمال مناسب نہیں کیا جائے تو اس پر قابو پانے کی تمام ترکوش کے باوجود وہ ہمارے ہاتھ سے نکلا جائے گا۔ کوئی شخص کتنا بھی اہم اور کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو، وہ وقت کو نہیں روک سکتا، ناس کی رفتار کو گھٹا بڑھا سکتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔

آج کے تیزی سے بدلتے ہوئے طرز زندگی میں، گھر، اسکول یا کام کا ج کی جگہ پر ہماری ضرورتیں اور ذمے داریاں بڑھ گئی ہیں۔ اس صورت حال نے وقت کی انتظام کاری کی اہمیت کو بہت بڑھادیا ہے۔ اب کامیابی کے لیے وقت کی انتظام کاری کی مہارتوں کو فروغ دینا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ جو لوگ یہ تدایر اختیار کرتے ہیں وہ زندگی کے ہر میدان میں وہ چاہے زراعت ہو یا تجارت، سہیل ہو یا عمومی خدمت کے دوسرا پیشے، کوئی اور ذاتی زندگی، کامیاب ہوتے ہیں۔ غرض تمام شخصی اور پیشہ ورانہ امور میں وقت کا صحیح استعمال کامیابی کی کنجی ہے۔ وقت کی اس انتظام کاری سے آرام اور تنفس کے لیے بھی وقت نکل آتا ہے۔

وقت کی انتظام کاری کا اصول یہ ہے کہ متناسق پر توجہ مرکوز بکیجیے، مشغول رہنے پر نہیں۔ لوگ اکثر ادھورے کاموں کے بارے میں بڑے فکرمند رہتے ہیں اور اسی فکر میں کئی کئی دن گزار دیتے ہیں لیکن انھیں کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے اہم اور قیمتی چیز وقت پر توجہ مرکوز نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر بعض طلباء اپنا سارا وقت امتحان کی فکر میں گزار دیتے ہیں جب کہ انھیں وہ وقت مطالعے میں لگانا چاہیے تھا۔

وقت کی صحیح انتظام کاری، منصوبہ بندی سے شروع ہوتی ہے۔ وقت کے استعمال کا منصوبہ بنانا بہت ضروری ہے۔ اس کے منصوبے کی تعریف ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ یہ ان سرگرمیوں کا یعنی نظام الاؤقات ہے جنہیں ایک مقررہ مدت کے اندر انجام دینا ہے۔

آپ کے وقت کی انتظام کاری کتنی اچھی ہے؟ (How good is your time management?)

وقت اور سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کے اقدامات سے پہلے یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ آپ کے وقت کی انتظام کاری کتنی موثر ہے؟ آپ خود اپنے منصوبہ بند کاموں کو کس حد تک پورا کر پاتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ہفتہ وار، روزانہ یا ہر گھنٹے کے کام کو سمجھ داری سے انجام دے سکتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اپنی سرگرمیاں مکمل کرنے کے لیے دن بھر کا وقت کافی نہیں ہوتا۔

سرگرمی 1

ذیل میں دی گئی سرگرمی سے آپ کو وقت کی انتظام کاری کی اپنی صلاحیت کا اندازہ کرنے میں مدد ملے گی۔

ہدایات: ذیل میں دیے گئے سوالات کو نمبر دیجیے اور یہ متعین کیجیے کہ ان میں سے کون سا بیان آپ کے معاملے میں زیادہ صحیح ہے۔ آپ کو جوابات کی درجہ بندی اس طرح کرنی ہے۔

بالکل نہیں = 1

بہت کم = 2

کبھی کبھی = 3

اکثر = 4

اکثر و بیشتر = 5

مثالیں: اگر پہلے سوال کے لیے آپ کا جواب ”اکثر“ ہے تو آپ متعلقہ خانے میں 4 لکھیے اور اگر آپ کا جواب ”بہت کم“ ہے تو متعلقہ خانے میں 2 لکھیے۔

تمام سوالوں کے جواب دینے کے بعد آخری میزان حاصل کرنے کے لیے سب جوابوں کا حاصل لکھ دیجیے۔

نمبر شمار	سوال	بالکل نہیں	کبھی کبھی	بہت کم	اکثر	اکثر و بیشتر
.1	کیا آپ دن کے دوران اولین ترجیح کے کاموں کو پورا کر پاتے ہیں؟					
.2	کیا آپ اپنے کاموں کو ترجیح کے لحاظ سے ترتیب دے سکتے ہیں؟					
.3	کیا آپ اپنے کام مقررہ مدت میں کر سکتے ہیں؟					
.4	کیا آپ منصوبہ بندی اور نظام الاؤقات بنانے کے لیے الگ الگ وقت مقرر کرتے ہیں؟					
.5	کیا آپ اپنے کیے گئے کاموں میں لگنے والے وقت کا حساب رکھتے ہیں؟					
.6	آپ کتنی بار کا وٹ اور توجہ ہٹے بغیر کام کر سکتے ہیں؟					
.7	آپ کو جو کام انجام دینے میں ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کیا آپ مقاصد کا تعین کرتے ہیں؟					

					کیا آپ غیر متوقع باتوں پر قابو پانے کے لیے اپنے نظام الاؤقات میں 'فاضل وقت' کی گنجائش رکھتے ہیں۔ .8
					کیا آپ نئے تفویض کردہ کاموں کی ترجیح قائم کرتے ہیں؟ .9
					کیا آپ مقررہ مدت اور پابندیوں کے باوجود میں آئے بغیر اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں؟ .10
					کیا آپ اہم کاموں کو رکاوٹوں کے باوجود موثر طور پر انجام دے لیتے ہیں؟ .11
					کیا تفویض کردہ کاموں کو گھرنہ لا کر دفتر میں ہی انجام دے لیتے ہیں؟ .12
					کیا آپ تفویض کردہ کام کرنے سے پہلے اہم کاموں کی فہرست یا منصوبہ عمل تیار کرتے ہیں؟ .13
					کسی تفویض کردہ کام کی ترجیح معین کرنے کے لیے کیا آپ تجربہ کارلوگوں سے مشورہ کرتے ہیں؟ .14
					تفویض کردہ کام شروع کرنے سے پہلے کیا آپ اس پر غور کرتے ہیں کہ اس کام میں جو وقت لگ رہا ہے، وہ اس کے لائق ہے؟ .15

= میزان

اسکور کی تشریع	اسکور	تشریع
آپ اپنے وقت کا بہت موثر بنو بست کر رہے ہیں۔ مزید بہتری کے لیے نیچے دیے گئے سیکشن پر نظر ڈالیے۔	46-75	
بعض پہلوؤں سے آپ اچھے ہیں لیکن دیگر پہلوؤں میں بہتری کی گنجائش ہے۔ نیچے دیے گئے کلیدی مسائل پر توجہ کیجیے۔ آپ شاید محسوس کریں گے کہ آپ پر کام کا دباؤ اب پہلے سے کم ہو گیا ہے۔	31-45	
آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ طویل مدتی کامیابی کے لیے آپ کے پاس اس بات کا وسیع موقع ہے کہ آپ اپنے کام کو اور موثر بناسکیں۔ تاہم اس کے لیے آپ کو وقت کے مختلف استعمال کے طریقوں کو بہتر کرنا ہو گا۔	15-30	

وقت اور سرگرمی کی منصوبہ بندی کے اقدامات (Steps in time and activity plan)

- (a) جتنی جلد ممکن ہو اپنا کام شروع کر دیجیے۔ ذمہ داری سے بچنے یا اس میں تاخیر کرتے رہنے میں اپنا وقت ضائع مت کیجیے۔ طالب علم گھر پہنچنے تو تھوڑی دیر آرام کر لے، کھانا کھائے اور پھر دن ختم ہونے تک کام کوٹا لئے کے بجائے فوراً اپنے اسکول کا کام شروع کر دے۔
- (b) روز کا ایک معمول بنالیجیے۔ بعض اہم کام کرنے کے لیے وقت کا انتخاب کر لیجیے۔ مثلاً اسکول کا کام کرنا ہے یا گھر کے چھوٹے مولے کام کرنا۔ اس کے بعد اپنے معمول کے کاموں کو انجام دیجیے۔ طلباء کو چاہیے کہ اپنے کام وقت پر اور بلا تاخیر کرنے کے لیے ہر روز کا ایک معمول بنالیں۔
- (c) اپنے کاموں کی ترجیحی ترتیب مقرر کر لیجیے۔ ہر نیا کام شروع کرنے سے پہلے یہ اطمینان کر لیجیے کہ اس کام سے آپ کے پہلے سے چل رہے کام متاثر نہیں ہوں گے۔ کسی ایک ہی وقت میں بہت سے کاموں یا سرگرمیوں کی ذمہ داری مت قبول کیجیے۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے تو اختیاری کام بعد میں شروع کیجیے اور پہلے لازمی کام انجام دیجیے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی طالب علم کا کوئی کلاس ٹیسٹ ہے تو اسے پہلے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کے بعد ہوم ورک کرنا چاہیے اور اس کے بعد دیگر سرگرمیاں انجام دینی چاہیں۔
- (d) غیر اہم اور کم ترجیح والے کام ہاتھ میں نہ لیجیے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا کام زیادہ ہے تو انکار کرنے کی عادت ڈالیے۔ جو کام اہم نہیں ہے انھیں کرنے سے منع کر دیجیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی طالب علم کو اگلے روز کا کام کرنا ہے تو وہ ٹیلی ویژن نہ دیکھے۔
- (e) بڑے کام کو چھوٹے چھوٹے قبل انتظام حصول میں تقسیم کر دیجیے۔ دن بھر کے اسکول کے کام (بڑے کام) کو مختلف مضمایں کے لحاظ سے چھوٹے چھوٹے کاموں میں تقسیم کر دیجیے۔
- (f) ان کاموں پر اپنا وقت اور اپنی تو انائی ضائع نہ کیجیے جن پر زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔
- (g) کوئی کام شروع کیجیے تو اسے مکمل کیجیے یا پھر یہ طے کر لیجیے کہ اس کو کب تک پورا کرنا ہے۔ کام مکمل کیے بغیر اس کو نہ چھوڑیے۔
- (h) شروع کرنے، اور ختم کرنے کے اوقات کو نظام الاؤقات کا حصہ بنالیجیے۔ ہر مضمون کے لیے الگ وقت متعین کیجیے۔ کسی ایک مضمون میں بہت زیادہ وقت نہ لگائیے۔
- (i) اپنے تمام اہم کاموں اور سرگرمیوں کا ایک نظام الاؤقات بنالیجیے۔ اس سے ہر اہم کام کو موثر طور پر انجام دینے کے لیے وقت جائے گا۔ دن بھر کے کاموں کا ایک نظام الاؤقات بنالیجیے جس میں تفریق کا وقت بھی ہمیشہ شامل ہونا چاہیے۔



شكل 1: نظام الاوقات کی قسمیں

سرگرمی 2

ذیل میں بارھویں درجے کے ایک ایسے طالب علم کے وقت اور کاموں کا نظام الاوقات درج ہے جو کسی چھوٹے شہر میں اسکول کے قریب ہی رہتا ہے۔ سامنے کے کالم میں اپنے اوقات اور سرگرمیوں کا نظام تحریر کیجیے۔

آپ کے اوقات کی منصوبہ بندی	دیہی خانہ دار کے اوقات کی منصوبہ بندی
سوکر اٹھتا ہے	5.00 am
روزمرہ کی ذاتی سرگرمیاں	5.00-6.00 am
پڑھائی اباور پڑھانے کے کام میں مدد	6.00 am - 7.00 am
نہانہ اور اسکول کی تیاری	7.00 am - 7.30 am
ناشٹہ اور اخبار بینی	7.30 am - 7.50 am
اسکول بپہنچنا	7.50 am - 8.00 am
اسکول میں رہنا	8.00 am - 2.00 pm
گھر بپہنچنا	2.00 pm - 2.10 pm
کپڑے بدلنا، ہاتھ منہ دھونا، دوپہر کا کھانا کھانا وغیرہ۔	2.10 pm - 3.00 pm
آرام / سونا	3.00 pm - 4.00 pm
پڑھنا اور اسکول کا کام کرنا	4.00 pm - 6.00 pm
باہر جا کر کھلینا، خالی وقت گزارنا، ٹی وی دیکھنا، والدین کے ساتھ وقت گزارنا، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا	6.00 pm - 8.30 pm
رات کا کھانا	8.30 pm - 9.00 pm
مطالعہ، اگلے دن کے لیے اسکول کا بستہ تیار کرنا	9.00 pm - 10.00 pm
سونا	10.00 pm - 5.00 am

وقت سے متعلق منصوبے انفرادی ضروریات کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ ہر شخص کے مقاصد الگ ہوتے ہیں اور ہر شخص کی ضروریات الگ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم کے وقت کا منصوبہ اس شخص کے منصوبے سے الگ ہو گا جو کام پر باہر جاتا ہو۔

والدہ کے اوقات کی منصوبہ بندی	دیہی خانہ دار کے اوقات کی منصوبہ بندی	
	جا گنا	4.00 am
	گائے کوچارہ دینا اور دودھ دو ہنا	4.00 am - 5.00 am
	نہا کر پوچاپٹ کرنا	5.00 am - 5.30 am
	کھانا پکانا اور گھر والوں کو پیش کرنا	5.30 am - 7.00 am
	کھیت میں کام کرنا	7.00 am - 9.00 am
	گھر کے دیگر چھوٹے موٹے کام جیسے گھر کی صفائی، برتوں کی صفائی، کپڑوں کی دھلانی	9.00 am - 10.30 am
179	آرام کا وقت: اس میں بُنائی، گھر کے افراد سے بات چیت، پڑوسیوں سے بات چیت، لی وی دیکھنا شامل ہے	10.30 am- 12.30pm
	گھر والوں کو دوپہر کا کھانا دینا، خود بھی کھانا کھانا	12.30 pm- 1.30 pm
	سہ پہر کا آرام	1.30 pm - 3.00 pm
	پکانے کے لیے پانی لانا	3.00 pm - 4.30 pm
	گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹانا	4.30 pm - 6.00 pm
	رات کا کھانا تیار کرنا	6.00 pm - 7.30 pm
	گھر والوں کو کھانا دینا اور خود بھی کھانا	7.30 pm - 8.30 pm
	گھر کے باقی کام کرنا	8.30 pm - 9.30 pm
	لی وی دیکھنا، سونا	9.30 pm- 10.00 pm

وقت کی انتظام کاری کے لیے موثر مشورے (Tips for effective time management)

1۔ ”کاموں کی“ ایک سادہ سی فہرست تیار کیجیے۔

اس سے آپ کو کاموں کی نشان دہی کرنے، انھیں انجام دینے کی وجہ جانے اور ان کو مکمل کرنے کے لیے وقت کا تعین کرنے میں مدد ملے گی۔

۲- روزانه/ هفتگه وارمنصویه ساز

3- طویل مدتی منصوبہ ساز


ایک ماہانہ چارٹ بنائیے تاکہ آگے کی منصوبہ بندی کی جاسکے۔ طویل مدتی منصوبہ ساز سے اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے گا کہ اپنے اوقات کی بھی تعمیری منصوبہ بندی کرنی ہے۔

جنوری	
فروری	
مارچ	
اپریل	
مئی	
جون	
جولائی	
اگسٹ	
ستمبر	
اکتوبر	
نومبر	
دسمبر	

(Tools in time management) وقت کی انتظام کاری کے طریقے

ذیل میں دیے گئے طریقے وقت کی انتظام کاری کرنے میں معاون ہو سکتے ہیں:

- (i) بہت زیادہ مصروفیت کا وقت (Peak load period): وقت کی وہ مدت ہے جس میں کام کا بوجھ سب سے زیاد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صبح کا وقت یا رات کے کھانے کا وقت۔



181

(ii) کام کا خط منحنی (Work Curve): یہ کسی وقت کے دوران ہونے والے کام کا پیتا لگانے کا طریقہ ہے۔

یہاں سے a تک خود کام کے لیے آمادہ کرنے کا وقت ہے۔ c کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت اور d تھکن کی وجہ سے آنے والی زیادہ سے زیادہ گراوٹ ہے۔

سرگرمی 4

اپنے روز کے زیادہ سے زیادہ کام کے اوقات اور آرام کے وقفوں کی نشاندہی کیجیے۔

(iii) آرام کے وقفے: یہ کام کے دوران غیر پیداواری رکاوٹیں ہیں۔ آرام کے وقفوں کی مدت اور ان کا تعداد (Frequency) بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ وقفے نہ بہت طویل ہونے چاہئیں اور نہ بہت مختصر۔

(iv) کام کو آسان بنانا (Work Simplification): یہ کسی کام کو شعوری طور پر، سادگی، آسمانی اور تیزی سے کرنے کی کوشش ہے۔ اس میں دواہم و سائل یعنی وقت اور تو انائی کی ہم آہنگی اور انتظام کاری شامل ہے۔ اس کا مقصد ایک دیے گئے وقت اور تو انائی کی مدد سے کام کو انجام دینا ہے، یا یوں کہیے کہ ایک مقررہ کام کی انجام دہی میں وقت یا تو انائی یا دنوں کی مقدار کو کم کرنا ہے۔ کام کو آسان بنانے کے طریقے کا میں تبدیلی لانے کے لیے تبدیلیوں کی تین سطحیں بہت اہم ہیں۔ یہ حسب ذیل ہیں:

- ہاتھ اور جسم کی حرکات میں تبدیلی: اس میں کام کے کیساں ذرائع اور نتیجے پر نظر رکھتے ہوئے صرف جسم اور

ہاتھوں کی حرکت میں تبدیلی لانا ہے۔ اس طرح بہت سے کام درج ذیل ذریعے سے کم کوشش اور محنت سے کیے جاسکتے ہیں۔

(I) بعض مرافق کو چھوڑ کر بعض کو ایک ساتھ ملا کر۔ مثلاً

- ڈشوں کو برتنوں کی ریک (Rack) پر سوکھنے دیجیے۔ اس طرح انہیں پوچھ کر سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

- جو چیزیں بازار سے خریدنی ہیں ان کی ایک فہرست بنائیجیے اور ان کو الگ الگ خریدنے کے بجائے ایک ساتھ خریدیے۔

(II) کام کی ترتیب اور اس کے انداز کو بہتر بناؤ، مثلاً

- یکساں قسم کے کام ایک ساتھ کیجیے۔ گھر کی صفائی کرتے وقت، سارے کمروں میں جھاڑنے جھاڑو دینے اور پونچھا

- پھر ان کے کام ہر کمرے کو الگ الگ صاف کرنے کے بجائے ایک ساتھ کیے جاسکتے ہیں۔ اس طرح کام زیادہ سلیقے سے ہو جائے گا۔

(III) کام کی مہارت پیدا کر کے بھی محنت کو کم کیا جاسکتا ہے۔ کسی کام کی بھرپور واقفیت اور مہارت سے جسمانی محنت کم لگتی ہے اور اس

طرح وقت اور توازنی کی بھی بچت ہوتی ہے۔

(IV) جسم کی وضع کو بہتر بناؤ کر بھی محنت کی بچت ہو سکتی ہے۔ یعنی جسم کی درست اور اچھی وضع کو برقرار رکھنا، (شکل 2، دیکھیے)

عضلات کا موثر استعمال کرنا، جسم کے اعضا سیدھے رکھنا اور آخر کار ہڈیوں پر زیادہ سے زیادہ وزن ڈالنا، اس طرح عضلات

کو تناؤ سے آزاد رکھنا۔ مثال کے طور پر جھک کر جھاڑو دینے کے بجائے جھاڑو کا لمبا دستہ جسم کی مستحکم وضع کو برقرار رکھے گا

(دیکھیے شکل 3)۔

182



کھڑے ہونے کا درست انداز۔ کھڑے ہونے کے صحیح انداز میں سر، گردن، سینہ اور پیٹ ایک دوسرے کے اوپر توازن کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس سے جسم کا بوجھ ہڈیوں کے ڈھانچے (Bony framework) پر رہتا ہے اور عضلات اور رباطوں (ligaments) پر کم سے کم دباؤ پڑتا ہے۔

اسی طرح کام کرنے کے لیے بیٹھنے کا صحیح انداز بہت متوازن اور پر سکون ہونا چاہیے۔ بیٹھنے کا انداز ایسا ہو کہ جسم کا بوجھ ہڈیوں کے ڈھانچے پر رہے اور عضلات اور اعصاب پر دباؤ یا تناؤ نہ ہو۔ توازن اس انداز کا ہو کہ کام کرنے میں سہولت ہو جائے۔

شکل 2: جسم کے اعضا کو مرکزِ نقل کی سیدھی میں دکھانے والی شکل



آرام دہ لمبے دستے والی جھاڑو



غیر آرام دہ دستے والی جھاڑو جس میں کمر کو جھکانا پڑتا ہے اور عضلات پرد باؤ پڑتا ہے۔

شکل: 3:

کام، ذخیرہ گاہ اور زیر استعمال آلات میں تبدیلی — اس میں ذخیرہ گاہ کو منظم کرنے، کچن کے سامان کو دوبارہ ترتیب دینے، استعمال کرنے والے کی ضرورت کے مطابق کام کرنے کی جگہ کی صحیح اونچائی اور چوڑائی کا تعین کرنے اور پریشر گلر، واشنگ مشین، مانگرو و یو وغیرہ محنت بچانے والے سامان استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تمام امور سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور ہاتھ کم چلانے پڑتے ہیں۔

نیتیجر کی تبدیلی — یہ تبدیلیاں درج ذیل کے استعمال سے ہوتی ہیں۔

— مختلف خام مال مثلاً ثابت مصالوں کے بجائے پسے ہوئے تیار مسالے، فصلوں کے لیے نامیاتی بجوں کا استعمال وغیرہ۔

— ایک ہی خام مال سے مختلف مصنوعات کی تیاری۔ مثلاً آس کریم کے بجائے قلفی، کوفتے کے شوربے کے بجائے لوکی کا پراٹھا وغیرہ۔

— خام مال اور تیار مصنوعات دونوں میں تبدیلی۔ مثلاً فاؤنٹین پین کے بجائے بال پین وغیرہ کا استعمال۔

10C.2 جگہ کی انتظام کاری (Space Management)

گھر یا گھر سے باہر اور دفتر میں مختلف سرگرمیاں انجام دینے کے لیے لوگ جگہ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ ایک اچھے نقشے پر بنا ہوا کمرہ کشادگی کا احساس کرتا ہے جب کہ اتنے ہی رقبے میں بنا ہوا یکساں پیماش کا کمرہ ٹھیک سے منظم نہ کیا جائے تو بند بند اور بے ترتیب سالگرتا ہے۔ جگہ کی انتظام کاری (Space management) میں جگہ کی منصوبہ بندری، منصوبے کے مطابق

اس کا استعمال، استعمال کے لحاظ سے منصوبے پر عمل درآمد اور اس کی افادیت اور جمالياتی اثر کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت کا تعین وغیرہ شامل ہیں۔ اچھی طرح تیار کی گئی کام کی جگہ پر کام کے دوران نہ صرف آرام ملتا ہے بلکہ وہ دل کش بھی نظر آتی ہے۔

جگہ اور گھر (Space and the home)

بیٹھنا، سونا، پڑھنا، رپکانا، نہنا، دھونا، تفریح وغیرہ ایسی اہم سرگرمیاں ہیں جو گھر میں انجام پاتی ہیں۔ ان سرگرمیوں اور ان سے پیدا ہونے والے کاموں کے لیے عام طور پر گھر میں کچھ جگہیں طے ہوتی ہیں۔ جہاں جگہ دست یاب ہو وہاں ایسی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے مخصوص کمرے ہوتے ہیں۔ اکثر شہری متوسط طبقے کے پیشتر گھروں میں بیٹھک، خواب گاہ، باورچی خانہ، استور روم، غسل خانہ، بیت اللہ، برآمدہ صحن وغیرہ ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ کچھ گھروں میں بعض اور کمرے جیسے ڈائنس روم، اسٹڈی روم، ڈریگنگ روم، مہمان خانہ، بچوں کا کمرہ، گیر ترچ (اسکوٹر کار کے لیے)، زینہ، راہداری، پوجا کا کمرہ، باعچپہ اور ٹیکریں وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان جگہوں کی منصوبہ بنندی کس طرح ہوگی؟

سرگرمی 5

اپنے گھر میں مختلف کمروں اور جگہوں میں انجام دی جانے والی سرگرمیوں کی ایک فہرست تیار کیجیے۔ مثال کے طور پر:

سرگرمیاں	کمرے
کھانا پکانا	باورچی خانہ

184

جگہ کی منصوبہ بنندی کے اصول (Principles of space planning)

جگہ کے بھر پر استعمال کے لیے اس کی منصوبہ بنندی کی جانی ضروری ہے۔ ذیل میں ایسے اصول درج کیے جاتے ہیں جنہیں گھر میں کام کی جگہوں کے تعین اور ان کو تیار کرتے ہوئے ذہن میں رکھنا چاہیے۔

- (i) رخ (Aspect): رخ کسی عمارت کی یہ ورنی دیواروں میں دروازوں اور کھڑکیوں کی ترتیب یا نظم کو کہتے ہیں۔ اس سے وہاں مقیم لوگوں کو قدرت کے عطیات مثلاً دھوپ، ہوا اور مناظر سے لطف انداز ہونے کے موقع حاصل ہوتے ہیں۔
- (ii) تاثر (Prospect): تاثر اپنے اصل مفہوم میں وہ احساس ہے جو اس شخص میں پیدا ہوتا ہے جو کسی گھر کو باہر سے دیکھتا ہے۔ گھر اس طرح بنایا جائے کہ وہ دیکھنے میں اچھا لگے۔ اس کے قدرتی حسن کا استعمال بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں دروازوں اور کھڑکیوں کے رخ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں ناخوش گوار چیزوں کو چھپانا بھی شامل ہے۔
- (iii) ذاتی پہلو (Privacy): جگہ کی مخصوص بندی میں ذاتی پہلو کا خیال رکھنا سب سے اہم اصول ہے۔ ذاتی معاملات کے دوام پہلو ہیں۔
 - اندرونی ذاتی پہلو (Internal Privacy): ایک کمرے کو دوسرے کمرے سے الگ رکھ کر اندرونی ذاتی پہلو کا خیال رکھا جاسکتا ہے۔ اسے دروازوں کی جگہ کے تعین اور چھوٹی راہداری یا لابی وغیرہ کی سہولت کے ساتھ گھر کی مخصوص بندی کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اندرونی ذاتی پہلو کا خیال چھوٹے بڑے پردے ڈال کر بھی رکھا جاسکتا ہے۔ زیادہ افادوں کے لئے اسے دروازوں کے بیٹھنے کے لیے الگ جگہ رکھی جاتی ہے جس سے انھیں ہر مداخلت سے دور رکھنے کا مقصد حل ہو جاتا ہے۔
 - خارجی ذاتی پہلو (External Privacy): گھر کے تمام حصوں کو پڑوس کی تمام عمارتوں یا گھروں، عام راستوں اور جگہوں سے روپوش رکھ کر خارجی ذاتی پہلو کا خیال رکھا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کے آگے ایک سامان بھی بنایا جاسکتا ہے، جس کے سامنے کوئی بیٹھنے یا بیلیں بھی رکائی جاسکتی ہیں۔




خارجی ذاتی پہلو کا اہتمام۔ بازار یا جھاڑیوں کے ذریعے محفوظ گھر

سرگرمی 6

اپنے خاندان کے مختلف عمر کے لوگوں سے بات کیجیا اور ان سے پوچھیے کہ وہ ذاتی پہلو سے کیا سمجھتے ہیں۔

(iv) **یک جائی (Grouping):** اس کا مطلب گھر کے مختلف کمروں کا ایک دوسرے سے نزدیک یا دور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، کسی عمارت میں، کھانے کا کمرہ باورچی خانے کے نزدیک ہونا چاہیے اور باورچی خانہ بیت الخلاسے دور ہونا چاہیے۔




مکان کا نقشہ

(v) **کشادگی (Roominess):** اس کا مطلب کسی کمرے میں رہنے والے لوگوں کو کشادگی کا احساس دلانا ہے۔ دست یا بجکہ کا بھرپور استعمال کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر کمرے کی دیواروں میں الماری، طاق اور مچان ہو سکتا ہے تاکہ کمرے کا فرش مختلف سرگرمی کے لیے بچار ہے۔ اس کے علاوہ کمرے کا سائز، کمرے کی شکل، فرنیچر کی ترتیب اور کمرے کے رنگوں کا امتزاج بھی اس کی کشادگی کے احساس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک مناسب مستطیل کمرہ مربع شکل کے یکساں ناپ والے کمرے کے مقابلے میں زیادہ کشادہ لگتا ہے۔ گھرے رنگوں کے مقابلے بلکہ رنگوں سے بھی کمرہ زیادہ کشادہ معلوم ہوتا ہے۔

(vi) **فرنیچر:** کمروں کی منصوبہ بندی کرتے وقت وہاں رکھے جانے والے فرنیچر کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس بات کا بھی دھیان

وسائل کی دست یابی اور انتظام کاری

رہے کہ ضروری فرنیچر ہی کمرے میں رکھے جائیں۔ فرنیچر کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ کمرے میں چلنے پھرنے کے لیے بھی کافی سمجھا کش باقی رہے۔



187



بغیر فرنیچر غیر آرستہ کمرے جنہیں بعد میں فرنیچر کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے آرستہ کیا گیا۔

(vii) صفائی (Sanitation): صفائی، مناسب روشنی، ہوا کی آمد و رفت، اور صفائی اور دھلائی کی سہولتوں پر مشتمل ہوتی ہے جس کے طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔

(a) روشنی: روشنی کی دو ہری اہمیت ہے۔ ایک تو اس سے روشنی ہوتی ہی ہے دوسرے حفاظان صحت میں بھی مدد ملتی ہے۔ کسی عمارت میں روشنی قدرتی ذرائع سے بھی فراہم کی جاتی ہے اور مصنوعی ذرائع سے بھی۔ کھڑکیاں، بلب، ٹیوب لائٹ روشنی کے کچھ ذرائع ہیں۔

(b) ہوا کا انتظام (Ventilation): کسی عمارت میں باہر سے ہوا کے آنے کا انتظام ہے۔ ہوا کا انتظام ایک اہم عامل ہے جو کروں اور عمارت کو آرام دہ بناتا ہے۔ عام طور پر کھڑکیوں، دروازوں، روشن دانوں کو عمارت میں اس طرح رکھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہوا آسکے۔ اگر کھڑکیاں آمنے سامنے لگائی جائیں تو اس سے ہوا کی آمد بڑھ جاتی ہے۔ کسی عمارت میں ہوا کی کمی سرکے درد، غنودگی اور کام سے اکتا ہے کا سبب بنتی ہے۔ ہوا قدرتی ذرائع سے بھی آتی ہے اور مصنوعی طریقے سے بھی مثلاً ایگزاسٹ فین وغیرہ استعمال کر کے۔

(c) صفائی ستھرائی کی سہولتیں: عام صفائی ستھرائی اور عمارت کا رکھرکھاؤ ہاں رہنے والوں کی ذمے داری ہوتی ہے۔ تاہم منصوبہ بندی کرتے وقت صفائی ستھرائی کی سہولتوں کا خیال رکھنا اور دھول سے محفوظ رہنے کا بھی بندوبست ضروری ہے۔ عمارت میں غسل خانے اور بیت الحلا کا بندوبست بھی صفائی ستھرائی کے زمرے میں شامل ہے۔ دبیکی مکانات میں بیت الحلا اور غسل خانے عام طور پر صحون کے پچھلے حصے اور کروں سے دور الگ اکائی کے طور پر بنائے جاتے ہیں۔ ان کو رہائشی حصوں سے دور رکھنے میں حفاظان صحت کے اصول پر عمل ہوتا ہے۔

(d) ہوا کی گردش (Circulation): ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہوا کا گز مرکن ہونا چاہیے۔ ہوا کے گزرنے



اسکول بلڈنگ

کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کسی مشترک کے جگہ سے ہر بائشی اکائی تک بے روک پہنچ سکے۔ اس سے گھر کے افراد کے ذاتی پہلو کا تحفظ بھی یقینی ہو جاتا ہے۔

(ix) عملی پہلو: کسی جگہ کی منصوبہ بندی کرتے وقت، کچھ عملی پہلوؤں کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان عملی پہلوؤں میں عمارت کی مضبوطی، اس میں فراہم کی جانے والی سہولتیں، خاندان کا آرام، سادگی، خوب صورتی اور مستقبل میں توسعے کی گنجائش بہت اہم ہیں۔ کمزور عمارت کھڑی کر کے بچت کرنا عقلمندی نہیں ہوگی۔

(x) خوش نمائی: خوش نمائی منصوبے کے عام نقشے سے پیدا شدہ تاثر کا نام ہے۔ کفایت سے سمجھوتہ کیے بغیر، کسی بھی جگہ کا نقشہ ایسا ہو جس سے ہماری جمالیاتی حس تو سکین ملے۔

مذکورہ بالا اصولوں کی رعایت رکھنے سے جگہ کی منصوبہ بندی اور انتظام کاری میں مدد ملتی ہے۔ اس باب میں ہم نے دو اہم ویلے یعنی وقت اور جگہ کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح ان کا بہتر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اگلے باب میں ہم ایک اور ویلے، علم اور اس کے حصول کے طریقوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آموزش، تعلیم اور توسعہ، حصول علم کی بنیاد ہیں۔

کلیدی اصطلاحات

وقت کی انتظام کاری (Time Management)، جگہ کی انتظام کاری (Space Management)، وقت کے استعمال کا منصوبہ (Time plan)، سرگرمی کا منصوبہ (Activity plan)، کام کو آسان بنانا (Work simplification)

سوالات برائے نظر ثانی

- 1۔ وقت اور جگہ کے وسائل کو بیان کیجیے۔
- 2۔ وقت کی انتظام کاری کیوں ضروری ہے؟
- 3۔ وقت اور سرگرمی کے منصوبے کے مرحلے کے بارے میں بحث کیجیے۔
- 4۔ وقت کی انتظام کاری کے کون کون سے ذرائع ہیں؟
- 5۔ جگہ کی انتظام کاری کی تعریف بیان کیجیے۔ گھر کے اندر جگہ کی منصوبہ بندی کے اصولوں پر بحث کیجیے۔

باب 10

- آموزش، تعلیم اور توسع

(Learning, Education and Extension)

آموزشی مقاصد

اس حصے کے مطالعے کے بعد طلباء:

- آموزش کے معنی اور اس کی اقسام سے بحث کر سکیں گے۔
- خاندان، اسکول، برادری اور سماج کے پس منظر میں تعلیم کا کردار بیان کر سکیں گے۔
- توسعہ تعلیم اور اس کے طریقوں کی اہمیت کو واضح کر سکیں گے۔
- ہندوستان کے چند توسمی پروگراموں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے۔

10D.1 آموزش یا سیکھنا (Learning)

تعارف: اب تک آپ نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہوگا کہ اب آموزش یا سیکھنے کا مطلب بتانا ضروری نہیں رہا۔ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آموزش ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ہمارے علم، ہماری فہم اور ہمارے رویوں کی کلید ہے۔ ہم اسی وقت سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں۔ درحقیقت، تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ جنین ماں کے پیٹ میں ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آموزش زندگی کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح آموزش کی تعریف اس طرح بیان کی جاسکتی ہے:

- کسی تجربے کے نتیجے میں کسی نئے طرز عمل (Behaviour) کا حصول یا کسی پرانے رویے کا طاقت وریا کمزور ہونا۔

آموزش کے عمل میں تین اہم اجزاء شامل ہیں:

- سیکھنے والا، جس کے طرز عمل میں اصلاح یا تبدیلی ہوتی ہے۔
- طرز عمل کی تبدیلی کے لیے مطلوبہ تربیت
- وسائل، انسانی اور مادی

آموزش پائچ قسم کی ہو سکتی ہے

- (i) زبانی آموزش (**Verbal learning**): مختلف زبانوں کو سیکھنے کا عمل زبانی آموزش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم اس قسم کی آموزش کے لیے نشانات، تصویریں، علامتوں، لفظوں، شکلوں، اصوات اور موسیقی کی آوازوں جیسے ابلاغی طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں تحریری یا زبانی نثر کے ذریعے معنیات (Semantics) یا رسمیاتی علم (Procedural knowledge) کی آموزش بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر کسی درسی کتاب کے اس باقاعدہ کریکٹنگ کا عمل۔
- (ii) یاد کرنے یار نئے کے ذریعے آموزش (**Rote learning or memorisation**): یہ بھی لفظی آموزش (Verbal learning) کی ایک قسم ہے۔ مگر اس آموزش میں کسی موضوع کے گہرے معانی کی تفہیم اور نتائج اخذ کرنے کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ اس کے بجائے اس میں مواد کو ٹٹ لینے پر زور ہوتا ہے۔ رٹنے کے ذریعے آموزش میں رٹنے یا بار بار یاد کرنے کی تکنیک اپنائی جاتی ہے۔ رٹنے کے طریقے کا استعمال ریاضی، موسیقی اور مذہبی موضوعات میں زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اشعار یاد کرنا، پہاڑے یاد کرنا، سورتیں اور اشلوک یاد کرنا وغیرہ رٹنے کے ذریعے آموزش کی مثالیں ہیں۔
- (iii) حرکی آموزش (**Motor learning**): اس قسم کی آموزش میں ہم مختلف قسم کے عضلات (Muscles) کا استعمال کرتے ہیں جس سے جسمانی پہلوتی پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں مہارتوں (Skills) کو فروغ ملتا ہے۔ تیراکی، ڈرائیونگ، سلائی، ٹائپنگ، بُنائی، ساز بجانا، سائیکل چلانا، ڈرائیور، پینینگ اور رقص وغیرہ سیکھنا حرکی آموزش کی چند مثالیں ہیں۔ اس طرح کی آموزش کے ذریعے مختلف مہارتوں کے حصول اور ان میں مشاق ہو جانے سے سیکھنے والے میں اعتماد بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی تشقی بھی ہوتی ہے۔
- (iv) تصور مرکوز آموزش (**Concept learning**): آموزش کے اس طریقے میں کسی چیز کے ادراک، سابقہ تجربے، تربیت یا ادراکی سرگرمیوں (Cognitive processes) کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں ایک تصویر بن جاتی ہے۔ یہ ذاتی تصویر کسی بھی چیز کے عمومی خیال (Generalised idea) کو ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ہم نے کتنا نی ای جانور کے تصویر کو سمجھ لیا تو جب کبھی لفظ کتا، زبان سے نکلے گا تو کتنے اور اس کی خصوصیات کے بارے میں ہمارے ذہن میں ایک تصویر بن جائے گی۔ تصور مرکوز آموزش اشیاء اور خیالات کو شناخت کرنے، ان کا نام لینے یا ان کی نشان دہی کرنے میں کام آتی ہے۔ اس سے سیکھنے والے بذریعہ نظری تصورات مثلاً انصاف، صداقت اور غیر یکسانیت (Heterogeneity) کے مفہوم سمجھنے لگتے ہیں۔
- (v) مسائل کا حل (**Problem solving**): جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، مسائل کا حل اعلا درجے کی آموزشی سرگرمی ہے۔ اس میں ادراکی اہلیتوں جیسے خور و فکر، استدلال، تمیز، تعمیم، تخلیل، مشاہدے اور نتائج اخذ کرنے کی اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر عمر کے لوگ مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً ایک شیر خوار پچھوکا ہونے پر رونے کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کرتا ہے۔

اور ایک طالب علم سنجیدگی کے ساتھ اپنے اسکول کا کام پورا کر کے اپنا مسئلہ حل کر لیتا ہے۔ اس طرح مسائل کے حل کے ذریعہ بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔

خلاصہ

آموزش کی قسمیں

- زبانی آموزش (Verbal learning): یعنی کسی نئی زبان کا سیکھنا۔
- رٹنے کے ذریعے آموزش (Rote learning): نظموں، بیانوں، سورتوں یا اشلوکوں کو یاد کرنا۔
- حرکی آموزش (Motor learning): جیسے ڈرائیونگ، تائپنگ، سلامی، سائینکنگ، تیراکی وغیرہ۔
- تصور مرکوز آموزش (Concept learning): جیسے قومی جمہد، آزادی، جذبہ وغیرہ۔
- مسائل کا حل (Problem solving): جیسے ریاضی کے سوال، معنے، بھیڑ والی سڑک پار کرنا وغیرہ۔

تعلیم 10D.2 (Education)

اسی صفحے پر دی گئی شکل کو دیکھیے اور درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ آپ کے روزمرہ کے تجربے میں تعلیم کا مطلب ہے:

a. موٹی موٹی کتابیں پڑھنا اور ان کو یاد کر لینا؟

ہاں نہیں کبھی کبھی

b. کوئی ایسی چیز جو کسی رسمی نظام میں طے شدہ نصاب کے تحت پڑھائی جاتی ہو

ہاں نہیں کبھی کبھی

c. نئے تصورات کا حصول؟

ہاں نہیں کبھی کبھی

d. اپنی صلاحیتوں کا ادراک؟

ہاں نہیں کبھی کبھی



192

اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ تعلیم کس طرح انسانی ماحولیات یعنی خاندان، اسکول، برادری اور سماج کی تفہیم میں مددگار ہوتی ہے۔


تعلیم ہمارے جسمانی، جذباتی، اور اکی اور ماورائی تجربات کے ذریعے دینا

کی تفہیم کو آسان بناتی ہے۔ یہ انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بروئے کارلاتی ہے۔ تعلیم مختلف طریقوں سے، چاہے وہ رسمی ہوں یا غیر رسمی، دی جا سکتی ہے۔ رسمی تعلیم با قاعدہ تدریس کے ذریعے ہوتی ہے۔ روزمرہ زندگی کے غیر مساختہ ماحول میں نسبتاً تھوڑے سے وسائل استعمال کر کے دی جا سکتی ہے۔ یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ تدریس اسی وقت سو دمند ہو گی جب سیکھنے کا عمل بھی شامل ہو۔ آموزش ایسا عمل ہے

(شری ارو بندو، بیسوں صدی کے

ایک ہندوستانی فلسفی)

جس میں طالب علم خود سیکھتا ہے، اسے سیکھنے پر مجبور نہیں کیا جاتا، یہ ایسی چیز نہیں ہے جو طالب علم کے ساتھ زبردستی کی جائے۔ گیارہوں یہ جماعت کے طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیم کی جن سرگرمیوں کا ذکر بھی کیا گیا ان کا تعلق آپ کی تعلیم سے ہی ہے۔ اسکوں میں آپ رسمی تعلیم حاصل کرتے ہیں حالانکہ آپ کی آموزش اور آپ کی تعلیم اسکوں سے باہر بھی بہت کچھ ہوتی ہے۔ ذیل میں دی گئی شکل ادارہ جاتی (Institution-based) تعلیم کے مختلف اجزاء کا لیکر یہ (Graphic) اظہار ہے۔



شکل 1: تعلیم کے اجزاء

تعلیم اور خاندان (Education and the Family)

آپ نے اکائی IIA میں 'خاندان' کے باب میں پڑھا ہے کہ بچے کے اسکوں جانے سے بہت پہلے خاندان، سماجی میل جوں (Socialisation) سکھانے کا کام کو شروع کر دیتا ہے یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری رہتا ہے جب بچہ مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہوتا ہے۔ بچہ کو خاندان میں رہنے سببے کے طور پر یقون، خاندان کی قدریوں، عقیدوں اور رویوں کے بارے میں سکھانا یا تعلیم دینا بھی سماجی میل جوں میں شامل ہے۔ اس طرح بچہ نہ صرف خاندان کی زبان بولنا سیکھ لیتا ہے بلکہ یہ بھی سیکھتا ہے کہ گھر آنے والے ملاقاتیوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا جاتا ہے یا یہ کہ والدین اور دیگر افراد کو ناخوش نہیں کرنا چاہیے۔

اب سوال یہ ہے کہ خاندان، خاندان کے مسائل اور ضروریات کی تفہیم کے سلسلے میں تعلیم کیا کروادا کرتی ہے؟ شکل 1 میں آپ نے دیکھا کہ تمام رسمی تعلیم میں کچھ موضوعات ہوتے ہیں جن کو انصاب کہا جاتا ہے۔ تعلیم کے مختلف مرحلے ہیں۔ ابتدائی سے اعلاء تعلیم تک ایسے بہت سے سبق یا مضمون پڑھائے جاتے ہیں جن سے آپ کو خاندان کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ابتدائی درجات، ہی

የኢትዮጵያን በቋሚነት እና ስምምነት የሚያስተካክለውን የዕለታዊ ማረጋገጫ መሆኑን የሚያሳይ

(Education and the School) التعلم والجامعة

.5	<hr/> <hr/>
.4	<hr/> <hr/>
.3	<hr/> <hr/>
.2	<hr/> <hr/>
1	<hr/> <hr/>

۱۰۷۳-۱۰۷۴میں پاکستانی حکومت نے اپنے ملک کو اسلامی تحریک کا حصہ کیا۔

۱

କେ-
ତୁ ଯାହାର ପାଦରେ ଶିଖିଲୁଛି ଏହାର ପାଦରେ ଶିଖିଲୁଛି ଏହାର ପାଦରେ ଶିଖିଲୁଛି





- **التعليم المبكر** (Preschool Education): هو التعليم الذي ينبع من المنهج المدرسي، ويتم تقديم خدماته في المدارس الابتدائية، وهو يهدف إلى تطوير مهارات الاتصال والقدرة على حل المشكلات لدى الأطفال.
 - **التعليم الشامل** (General Education): هو التعليم الذي ينبع من المنهج المدرسي، ويتم تقديم خدماته في المدارس الابتدائية، وهو يهدف إلى تطوير مهارات الاتصال والقدرة على حل المشكلات لدى الأطفال.
 - **التعليم المبكر** (Preschool Education): هو التعليم الذي ينبع من المنهج المدرسي، ويتم تقديم خدماته في المدارس الابتدائية، وهو يهدف إلى تطوير مهارات الاتصال والقدرة على حل المشكلات لدى الأطفال.
 - **التعليم الشامل** (General Education): هو التعليم الذي ينبع من المنهج المدرسي، ويتم تقديم خدماته في المدارس الابتدائية، وهو يهدف إلى تطوير مهارات الاتصال والقدرة على حل المشكلات لدى الأطفال.

କେବୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

(Education, Community and Society) Education, Community and Society

- تیلی پریم را - بکار گیرید و لقمه خود را تجیی آورید، فرم پنجه اش را تحریر کنید

2

1.

۱- مکالمه ایشان را در مورد تجارت ایران با ایالات متحده آمریکا برداشت کرد.

۲۶۳

۱- مکانیسم کوچکی از سلف-سافیانس (Self-sufficiency) می‌باشد که در تضاد باشید ۱۹۲۰-۱۹۴۵ میلادی.
۲- هر دو طبقه انسانی از این مکانیسم استفاده نموده اند.

۱۰۷- اَرْبَعَةٌ مُّتَّقِيَّةٌ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا يَمْلِئُونَهُمْ بَحْرٌ
۱۰۸- وَلَا يَمْلِئُونَهُمْ بَحْرٌ وَلَا يَمْلِئُونَهُمْ بَحْرٌ وَلَا يَمْلِئُونَهُمْ بَحْرٌ
۱۰۹- وَلَا يَمْلِئُونَهُمْ بَحْرٌ وَلَا يَمْلِئُونَهُمْ بَحْرٌ وَلَا يَمْلِئُونَهُمْ بَحْرٌ

(Extension and Education) تجربة التعليم والتوسيع

توكيل (NGO) بموجبها كشريك في تنفيذ برامج ومشاريع تطويرية في مجال التعليم والتنمية، وذلك في إطار مشاركة القطاعين العام والخاص في إرساء معايير جودة التعليم.

- **کوئی ملکہ نہیں تھی اور اس کا بھائی تھا۔**
 - **کوئی ملکہ نہیں تھا اور اس کا بھائی تھا۔**
 - **کوئی ملکہ نہیں تھا اور اس کا بھائی تھا۔**

(Extension) 10D.3

توسیعی تعلیم کے اصول (Principles of extension education)

(i) **مفادات اور ضرورت کا اصول (Principle of Interest and Need):** توسع کا کام لوگوں کی ضروریات پر مبنی ہوتا ہے۔ چوں کہ ہر فرد، ہر گاؤں، ہر بلاک اور ہر ریاست کی ضرورتیں اور مفادات الگ الگ ہیں اس لیے سب لوگوں کے لیے ایک ہی پروگرام نہیں ہو سکتا۔

(ii) **تہذیبی فرق کا اصول (Principle of Cultural difference):** جن لوگوں کے لیے یا جن لوگوں کے ساتھ یہ توسع کا کام کرنا ہے ان کے تہذیبی پس منظر کو دھیان میں رکھنا توسیعی تعلیم کے لیے ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توسع سے متعلق کارکن کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی توسیعی پروگرام شروع کرنے سے پہلے ان لوگوں کے علم کی سطح، ان کی مہارتوں، طور طریقوں، رسم و رواج اور عقائد و اقدار کے بارے میں واقفیت حاصل کرے۔

(iii) **شرکت کا اصول (Principle of Participation):** توسع ان لوگوں کی مدد کرتی ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اچھی توسع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیہی اور شہری خاندانوں کو پہلے سے طے شدہ حل دینے کے بجائے ان کی اس طرح مدد کی جائے کہ وہ اپنے مسائل خود حل کر سکیں۔

(iv) **مطابقت پذیری کا اصول (Principle of adaptability):** توسع کے پروگرام کو لپک دار ہونا چاہیے تاکہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جب بھی ضرورت ہو تو ان میں تبدیلیاں کی جاسکیں۔

(v) **بنیادی سطح تنظیم (The grassroots principle of organisation):** توسع کا کام مقامی برادری کی سرپرستی میں ہونا چاہیے۔ مقامی حلتوں کو منظم کرنے کا مقصد نئے کاموں یا نئے پروگراموں کی قدر و قیمت کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان پروگراموں کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوں اور ان میں شرکت کریں۔

(vi) **قیادت کا اصول (The Leadership Principle):** توسع کے کام میں بیشتر مقامی قیادت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ مقامی رہنماؤں پر لوگوں کو زیادہ اعتماد ہوتا ہے اور اسی لیے ان کی نیشان دہی اور تربیت ضروری ہے تاکہ برادری کے لوگ کسی مزاحمت کے بغیر نئے خیالات کو قبول کر لیں۔

(vii) **مجموعی خاندان کا اصول (The whole family principle):** اگر خاندان کے تمام مردوں، عورتوں، بچوں اور تمام جوان لوگوں کو ساتھ لیا جائے تو توسع کے کام میں کامیابی کے زیادہ موقع ہوں گے۔

(viii) **باجمی تعاون کا اصول (Principle of Co-operation):** توسع امداد باجمی کا نام ہے۔ یہ ایک مشترکہ اور جمہوری سرگرمی ہے جس میں لوگ اپنے گاؤں، بلاک اور ریاستی حکام کے ساتھ مل کر کسی مشترکہ مقصد کے لیے ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔

(ix) **تشفی کا اصول (Principle of satisfaction):** توسیعی تدریس (Extension teaching) کی کوششوں کا حصل وہ تشفی ہے جو مسائل کے حل، ضرورتوں کی تکمیل، نئی مہارتوں کے حصول یا طرز عمل میں کسی نئی تبدیلی کی شکل میں شرکا (Participants) کو میسر آتی ہے۔

(x) **قدرتیائی کا اصول (The Evaluation Principle):** توسعہ سائنسی طریقوں پر مبنی ہوتی ہے اور اس کو مسلسل جانچتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ کام کے کارگر ہونے کا اندازہ ان تبدیلیوں کی شکل میں کیا جاتا ہے جو لوگوں کے علم، مہارتوں، طرزِ عمل میں ظاہر ہوتی ہیں انھیں محض مادی نشانے حاصل کرنے نہیں جانچا جاتا۔ مثال کے طور پر جب کوئی گرام سیوکا عورتوں کو پولیو سے بچنے کے بارے میں بتاتی ہے تو بعد میں اس بات کی جانچ بھی کی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں پولیو کے واقعات میں کی آئی یا نہیں۔

توسعی تدریس کے طریقے (Extension Teaching Methods)

توسعہ کے کام کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ حسب ذیل ہیں:

(i) **کھیتوں اور گھروں پر ملاقات (Farm and home visits):** اس کا مطلب ہے توسعی کارکن کی افراد یا خاندان کے اراکین سے براہ راست بات چیت۔ اس سے معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے اور مسائل سے واقفیت ہوتی ہے۔

(ii) **نتیجہ کا مظاہرہ (Result Demonstration):** نتیجہ کا مظاہرہ تجویز کردہ کاموں کے فائدوں اور مقامی حالات میں ان کے استعمال یا اطلاق (Applicability) کو ظاہر کرنے کے لیے کی جانے والی تعلیمی جانچ ہے۔ یہ طریقہ کچھ کاموں جیسے کیمیائی کھاد، کیڑے مار دواؤں اور کھیتی باڑی میں بیجوں کی زیادہ پیداوار دینے والی قسموں کے استعمال کی افادیت دکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

(iii) **طریقہ کارکا مظاہرہ (Method Demonstration):** یہ طریقہ عمومی یا کچھ کام کو کرنے کی تکنیک بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً پودوں کی کیاری تیار کرنا، کیڑے مار اور چپمند مار (Fungicides) دواؤں سے بیجوں کی حفاظت کرنا، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بوائی کرنا، مٹی کا نمونہ لینا اور پھل دار درختوں کی قلم لگانا وغیرہ۔

(iv) **گروپ میٹنگ (Group discussions):** توسعی کارکن، آبادی کی کثرت کے پیش نظر انفرادی طور پر ہر کسان سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے۔ البتہ ان سے گروپ کی شکل میں رابطہ کرنا ممکن ہے اور آسان بھی۔ اس طریقے کو گروپ میٹنگ کا نام دیا جاتا ہے۔

(v) **نمایشیں (Exhibitions):** معلومات، حقیقی نمونوں، ماظلوں، پوسٹروں، تصویروں، اور چارٹوں وغیرہ کو باقاعدہ طور پر اور منطقی ترتیب سے دکھانا نمائش ہے۔ جن چیزوں کی نمائش مقصود ہوتی ہے ان کے بارے میں لوگوں کی دل چسپی بڑھانے کے لیے نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمائشوں کا اہتمام مختلف موضوعات جیسے کسی ماذل گاؤں کی پلانگ یا آب پاشی کے جدید طریقوں کے مظاہرے وغیرہ کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔

(vi) **عام جلسے (General meetings):** عام طور پر آئندہ کوئی قدم اٹھانے اور لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی قومی تیوبہار یا ون مہروسو کو منانے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا۔

(vii) **مہمیں (Campaigns):** لوگوں کی توجہ کسی خاص مسئلے جیسے چوہوں پر قابو پانے، گاؤں میں صفائی رکھنے، پودوں کی حفاظت کرنے، ریج کی نصل بڑھانے یا خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرنے وغیرہ پر مبذول کرانے کے لیے مہمیں چلائی جاتی ہیں۔ ان سے عوام میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور لوگ کسی بھی پروگرام میں جوش و خروش کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔

Some of the Rural Employment Generation and Other Schemes

- **تمہارے فلمز کی تصویریں اور فلمز کی تصویریں (Motion Pictures or Movies) عکسیں**
 - **تصویریں اور فلمز کی تصویریں**
 - **فلمز کی تصویریں اور فلمز کی تصویریں**
 - **audio-visual aids (Audio-Visual Aids) عکسیں اور فلمز کی تصویریں (Visual aids)**
 - **فلمز کی تصویریں اور فلمز کی تصویریں**
 - **فلمز کی تصویریں اور فلمز کی تصویریں**

-تخته علیه ساری، چون راه ترکیش رویی که یقیناً میگیرد، به اینجا نمی‌رسد -

-**تکمیلی (Extension Method)** کی تعریف کے لئے ۱۰ تکمیلیں، کریجے۔ -۳

-**تَحْكِيمُ الْأَوْفَى** مِنْ سُلَيْمَانَ تَرْتِيلٌ بِالْمُهَاجِرِ

- (Working women) نړۍ اجنبۍ کړئ
 - Housewives (نړۍ اجنبۍ)
 - مړیانو ټکنیکلز، ټکنیکلز ټکنیکلز
 - سیکولار ټکنیکلز
 - تکنیکلز، ټکنیکلز، ټکنیکلز
 - 20-30 ګډا ټکنیکلز
 - 20-30 ګډا ټکنیکلز
 - ټکنیکلز، ټکنیکلز، ټکنیکلز
 - ټکنیکلز، ټکنیکلز، ټکنیکلز

۱- تحقیر خواهی اینها باید تراویح و نماز خواندن باشد.

۱۷۰

و شرکت ملی پالایشگاه نفت ایران

extension.edu.l.html

- تھیں جو کوئی نہ ملے، اس کی وجہ سے اس کا انتہا آتیا۔

(MLADP) ۲۰۱۷

(JGSY) بەلگاپەزىز - 2

Digitized by srujanika@gmail.com

تەنلۇغىنىڭ ئەملىقىسى

جیلگیر

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو رُزْقًا مِّنْ أَنْفُسِهِ وَمَا يَرْجُوا مِنْ رُزْقٍ إِلَّا كُنَّا مَعَهُمْ فِي أَنْتَرِيَةٍ

ଅର୍ଥାତ୍ କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏହାର କିମ୍ବା ଏହାର କିମ୍ବା ଏହାର କିମ୍ବା ଏହାର କିମ୍ବା ଏହାର

ادا جي اسکر ؟ میں یہ لشکر کے امیر اور اس کے بیانوں اور اس کے لئے لے رکھیں گے۔

With respect to the development of the market for electric vehicles, the following statement is made:

(MP Local Area Development Programme) (مپ لائل ائریا دیولپمنٹ پروگرام) ۳

بنیادی سطح پر توسعی سرگرمیوں میں شامل ہونے کا ایک نمایاں فائدہ یہ ہے کہ اس سے اپنے ملک کے ثقافتی ورثے (Cultural Heritage) کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے موقع حاصل ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کا ثقافتی ورثہ بہت شام دار اور متنوع ہے۔ اگلے باب میں ہم اسی ورثے سے متعلق ایک شبے یعنی کپڑوں کی وراثت کے بارے میں پڑھیں گے۔

کلیدی اصطلاحات:

آموزش (Learning)، تعلیم (Education)، غیر رسمی تعلیم (Non-formal Education)، توسعی تعلیم (Extension Education)، دیکھی روزگار فراہمی اسکیمیں (Rural Employment Generating Schemes)

سوالات برائے نظر ثانی

202

- 1۔ آموزش کی اصطلاح اور اس کی قسموں کی وضاحت کیجیے۔
- 2۔ تعلیم کے کوئی تین اجزا بیان کیجیے۔
- 3۔ رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے درمیان فرق واضح کیجیے۔
- 4۔ توسعی تعلیم سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے اصولوں کا تذکرہ کیجیے۔
- 5۔ درج ذیل کی صورتِ حال کے لیے دو سب سے مناسب توسعی طریق کا رکون منتخب کیجیے اور انھیں بیان کیجیے (استاد کی رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے)۔
(a) بچپوں کے لیے تعلیم کو مقبول بنانا۔
یا
(b) گھر کے کام کا جگہ میں شریک مردوں کی اہمیت۔

باب 10

E- ہندوستان میں کپڑا سازی کی روایات (Textile Traditions in India)

آموزشی مقاصد

اس سیکشن کے مطالعے کے بعد طلباء:

- ہندوستان میں ہزاروں سال سے تیار کیے جانے والے کپڑوں کی مختلف قسموں کی شناخت کر سکیں گے۔
- سوت، ریشم اور اون کے کپڑوں سے متعلق شعبوں کی نشان دہی کر سکیں گے۔
- رنگائی (Dyeing) کے تصور اور کپڑوں کی رنگائی کو بیان کر سکیں گے۔
- ملک کے مختلف حصوں میں کی جانے والے زردوزی (Embroidery) کے کام کی امتیازی خصوصیات کی وضاحت کر سکیں گے۔
- ہماری سماجی، ثقافتی اور اقتصادی زندگی میں کپڑا سازی کی مروجہ روایات کی بحث پر بحث کر سکیں گے۔

تعارف (Introduction) 10E.1

اس سے پہلے والے باب 'روز مرہ استعمال کے کپڑے' میں آپ ہندوستان میں تیار کیے جانے والے طرح طرح کے کپڑوں اور ان کے استعمال کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کپڑے کس طرح وجود میں آئے اور کس طرح ہندوستان کا ایک اہم ورثہ شمار ہونے لگے۔ اگر آپ کسی میوزیم یا عجائب گھر میں گئے ہوں تو آپ نے وہاں کسی حصے میں کپڑوں اور ملبوسات کی نمائش بھی دیکھی ہوگی۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ اس حصے میں شامل چیزوں کی تعداد بہت کم ہے اور پھر یہ چیزیں دیگر چیزوں کے مقابلے زیادہ پرانی بھی نہیں ہیں۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہڈی، پتھر یادھات وغیرہ کے مقابلے کپڑے جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود قدیم محسوسوں اور دیواروں پر بنی انسانی شکلوں کے ملبوس ہونے سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان میں ہزار سال پہلے بھی کپڑا سازی کا فن جانتا تھا۔ قدیم ادب اور غاروں اور عمارتوں کی دیواروں پر بنے مصوری کے نمونوں سے بھی ہمیں کپڑوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔

کپڑا سازی سے متعلق خام مال قدیم زمانے سے ہی انسانوں کے لیے باعث حریرت اور تہذیب کا ایک ضروری حصہ رہا ہے۔ سمجھی قدیم تہذیبوں کے لوگوں نے اپنے علاقے میں پائے جانے والے خام مال کو استعمال کر کے مختلف تکنیکوں اور ٹکنا لوچیوں کو ترقی دی۔ ان لوگوں نے اپنے جدا گانہ اور ممتاز ڈیزائن بنائے اور ڈیزائنوں والی مصنوعات کی بڑے پیمانے پر پیداوار کی۔

10E.2 ہندوستان میں کپڑا سازی کا تاریخی تناظر

(Historical Perspective in India)

ہندوستان میں نقش کپڑوں کی پیداوار کا سلسلہ اتنا ہی قدیم ہے جتنی ہندوستان کی تہذیب۔ رگ وید اور اپنے شدود میں کائنات کی تخلیق کے بیان میں کپڑے کو ایک علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ان تحریروں میں کائنات کو ”دیوتاؤں کا بنا ہوا کپڑا“، قرار دیا گیا ہے۔ روئے زمین پر روشنی اور تاریکی پیدا کرنے والے دن اور رات کو کر گھے کی چٹنی کی حرکت سے مثال دی گئی ہے۔

کپڑے کی بنائی قدیم ترین دست کاریوں میں شامل ہے اور نقش کپڑے کی پیداوار ابتدائی زمانے سے ہوتی چلی آئی ہے۔ کپڑے کے کٹلوے، پکائی ہوئی مٹی کی بنی تکلیاں، کانسے کی سوپیاں، جوموہن جو داڑھوں کی کھدائی کے دوران ملی ہیں، اس بات کی گواہ ہیں کہ ہندوستان میں کتابی، بُنایی، رنگائی اور زردوzi کی روایت کم از کم 5000 سال پرانی ہے۔ قدیم ترین تہذیبوں میں سب سے پہلے ہندوستان میں رنگ کی دریافت ہوئی اور کپڑوں، خاص طور پر سوتی کپڑوں پر ان کے استعمال کی تکنیک کو بھی پہلی بار یہیں ترقی دی گئی۔ رنگ اور چھپے ہوئے سوتی کپڑے دوسرے ملکوں کو برآمد کیے جاتے تھے۔ یہ کپڑے اپنے گھرے رنگوں کے لیے مشہور تھے۔ کلاسیک ادب (یونانی اور لاطینی) میں ان کے بارے میں ایسے مقتولے موجود ہیں کہ ”ہندوستانی کپڑوں کا رنگ داش کی طرح پاندار ہوتا ہے۔“

تحریری تاریخ کے ہر دور میں ہندوستان کے سوتی، ریشمی اور اونی کپڑوں کی عمدگی کے ستائشی حوالے موجود ہیں۔ یہ کپڑے اپنی عمدگی اور بُنایی، پکی رنگائی، چھپائی اور زردوzi کے ذریعے بُنائی جانے والی ڈیزائنوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ اسی لیے یہ کپڑے جلد ہی تجارت کا بہت سودمند ذریعہ بن گئے، ان سے سیاسی تعلقات کو فروغ دینے میں مدد ملی اور ان کے زیر اثر دیگر ملکوں میں بھی ایسی ہی صنعتوں کا قیام عمل میں آیا۔ پندرھویں صدی تک ہندوستان کپڑے برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا تھا۔ یورپی ملکوں کی طرف سے مختلف ایسٹ انڈیا کمپنیوں کے قیام کا عمل بھی ہندوستان کے کپڑوں کی تجارت سے ہی تعلق رکھتا تھا۔

10E.3 تین خاص ریشے (The Three Main Fibre)

روایتی طور پر ہندوستانی کپڑے کی پیداوار تین خاص ریشوں سے متعلق ہے۔ یہ تین ریشے ہیں کپاس، ریشم اور اون۔ آئیے ہم ان کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہیں۔

کپاس (Cotton)

ہندوستان کپاس کا گڑھ ہے۔ کپاس کی کاشت اور بُنائی میں اس کا استعمال ماقبل تاریخ سے ہی چلا آ رہا ہے۔ یہاں ایجاد کی جانے والی کتنائی اور بُنائی کی تکنیکوں سے ایسے کپڑے تیار کیے گئے جنہیں ان کی انتہائی اطاعت اور آرائش کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ کپاس نے ہندوستان سے نکل کر تمام دنیا میں رواج پایا۔ قدیم بابل کے علاقے میں کھدائی سے حاصل ہونے والے آثار اور ہٹرپ کی مہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ کپاس ان دونوں تجارتی سامان کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ جب رو میوں اور یونانیوں نے کپاس کو دیکھا تو کہا کہ یہ پیڑوں پر اگنے والی اون ہے۔

سوت کی بُنائی نے بہت سی کہانیوں کو جنم دیا ہے۔ ڈھا کہ میں (جواب بگلا دیش میں ہے) ایک بہت نفیس کپڑا۔ ممل خاص یا شاہی ممل (Royal Muslin)۔ بنتا تھا۔ یہ اتنا باریک اور عمده ہوتا تھا کہ بمشکل ہی نظر آتا تھا، اور اسی لیے اس کے نام بھی شاعرانہ تھے، مثلاً ”بافت ہوا“ آب روائیا شہبزم وغیرہ۔ جامد انی یا منتش ممل جو بگال اور شماں ہند کے بعض حصوں میں تیار کیا جاتا تھا، ہندوستانی بُنگروں کی نفیس ترین بروکید مصنوعات میں شامل ہے۔

عام بُنائی کے دوران بھراوی بانے کے تاریخ میں تانے کے تاریکے اور نیچہ چلتے ہیں لیکن جب بروکید کے ڈیزائن ریشم، سوت، یا سونے یا چاندنی (Gold / silver) کے تاروں سے بُنے جاتے ہیں تو ان تاروں کو بُنائی کے درمیان آر پار پیوست کر دیا جاتا ہے۔ ان بروکیدوں کو ان میں استعمال شدہ ریشے کے لحاظ سے سوتی بروکید (Cotton brocade) ریشمی بروکید یا زری (دھاتی تار) بروکید کہا جاتا ہے۔

205

سوتی کپڑے کو بنانے کی مہارت کے علاوہ، ہندوستانی بُنگروں کی ایک ممتاز خصوصیت سوتی کپڑوں پر شوخ اور پکے رنگوں سے نقش و نگار بنانا بھی رہی ہے۔ ہندوستان، 17 ویں صدی تک، سوتی کپڑے رنگے کے چیچیدہ کیمیائی عمل میں مہارت رکھنے والا تہماں ملک تھا۔ اس عمل کا مقصد سوتی کپڑے کو رنگنا ہی نہیں تھا بلکہ یہ رنگ گہرے اور پائیدار بھی ہوتے تھے۔ ہندوستانی چھینٹ کے کپڑوں (چھپے ہوئے سوتی کپڑے) نے ایک زمانے میں یورپ کے فیشن بازار میں انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ ہندوستانی دست کاروں کو ”ساری دنیا کے استاد رنگ ریزوں“ کا خطاب دیا گیا ہے۔

سوتی کپڑا سارے ہندوستان میں بُنا جاتا ہے۔ آج بھی بہت سی جگہوں پر انتہائی نفیس سوت کا تاتا اور بُنا جاتا ہے۔ البتہ بڑے پیمانے پر بُنا جانے والا سوتی کپڑا اخوڑا موٹا ہوتا ہے۔ یہ کپڑا اکٹی ڈیزائنوں اور مختلف رنگوں میں تیار ہوتا ہے جس کا استعمال ملک کے مختلف حصوں میں کیا جاتا ہے۔

ریشم (Silk)

ہندوستان میں ریشمی کپڑے قدیم زمانے سے بننے آئے ہیں۔ ہم نے گذشتہ سبق میں پڑھا ہے کہ ریشم کی شروعات سب سے پہلے چین میں ہوئی۔ لیکن ہندوستان میں بھی ریشم کا استعمال ضرور ہوتا رہا ہوگا۔ ریشم کی بُنائی کا تذکرہ تیسری صدی قم سے ملتا ہے اور اس وقت بھی ہندوستانی ریشم اور چینی ریشم میں امتیاز کیا جاتا تھا۔ سلطنتوں کی راجدھانیوں، مقدس شہروں اور تجارتی مرکزوں میں اور ان کے

اطرافِ ریشم کی بُنائی کے مرکز قائم ہوئے۔ بُنکروں کے ایک جگہ سے دوسرا جگہ جانے کا سلسلہ شروع ہوا تو ریشم کی بُنائی کے نئے مرکز قائم ہونے لگے۔ ہمارے ملک کے مختلف علاقوں ریشم کی بُنائی کے خصوصی اسالیب کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں مرکز حسب ذیل ہیں:

وارانسی: اتر پردیش کا شہر وارانسی ریشم کی بُنائی کے ایک خاص طرز کی روایت کا حامل ہے۔ وہاں کی سب سے مشہور پیداوار برکیڈ یا کم خواب ہے۔ اس کا نام کخواب دراصل اس کی شان و شوکت، زیب و زینت اور کپڑے کی اوپنی لاگت کا آئینہ دار ہے۔ کم خواب کا مطلب ایسا کپڑا ہے جسے کوئی خواب میں بھی نہ دیکھ سکے۔

مغربی بنگال: مغربی بنگال اپنی روایتی ریشم کی بُنائی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے بُنکر جامدani بُنئے والے کرگھوں جیسے کرگھ استعمال کر کے ریشمی برکیڈ والی ساڑی (Brocade sari) بُنئے ہیں۔ اس ساڑی کو بالوچ بولٹے دار کہا جاتا ہے۔ یہ طرز بالوچ سے شروع ہوا جو ضلع مرشدآباد میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اب یہ طرز وارانسی میں بھی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں بُنے ہوئے سادہ کپڑوں میں ریشم کے بغیر ہے ہوئے تاروں سے برکیڈ (Brocade) کا کام کیا جاتا ہے۔ ان ساڑیوں کی اہم ترین خصوصیت ان کا پلو ہوتا ہے۔ ان ساڑیوں پر نادر قسم کے نقش و نگار بننے ہوتے ہیں جن میں قدیم مذہبی تصویں، شاہی دربار کے مناظر، گھریلو زندگی یا سفر سے متعلق منظر و مثلاً ھوڑ سواروں اور پالکیوں کو دکھایا جاتا ہے۔ کناروں اور پلوؤں پر عموماً آم جیسی شکلیں بنی ہوتی ہیں۔

گجرات: گجرات کے کم خواب کا اپنا الگ انداز ہے۔ بھڑوچ اور کبجے میں نہایت نقش کپڑے تیار ہوتے تھے جو ہندوستانی حکمرانوں کے درباروں میں بہت مقبول تھے۔ احمد آباد کی اشادوی، ساڑیاں اپنے خوب صورت برکیڈ حاشیوں اور پلوؤں کے لیے بہت مشہور ہیں۔ ان کی زمین پرسونے اور چاندی کے تاروں کا گھنا کام ہوتا ہے جن میں انگلیں دھاگوں سے نقش و نگار بننے ہوتے ہیں۔ اس سے کپڑے پر چمک آجائی ہے۔ ان نقش میں انسانوں، جانوروں اور پرندوں کی تصویریں بھی کثرت سے ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی تصویریں گجرات کی لوک روایت کا لازمی حصہ ہیں۔

کچی پورم: تمیل ناڈو میں کچی پورم قدیم زمانے سے ہی جنوبی ہند کی برکیڈ بُنائی کا مشہور مرکز رہا ہے۔ یہاں کی روایتی ساڑیوں میں پرندوں اور جانوروں کی تصویریں ہوتی ہیں اور ان کے پلو پر برکیڈ کا گھنا کام ہوتا ہے۔ سرخ، ارغوانی، نارنجی، زرد، سبز اور نیلے گہرے رنگ جنوبی ہند کے کپڑوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔

پیتھن: مہاراشٹر میں اور نگ آباد کے نزدیک دریائے گوداوڑی کے کنارے واقع پیتھن علاقہ دکن کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی ریشمی ساڑی کے لیے مشہور ہے جس کے حاشیوں اور نقش و نگار پرسونے کی پیچی کاری ہوتی ہے۔ پیتھن کی مشہر بُنائی (Tapestry weave)، آرائشی بُنائی کی قدیم ترین تکنیک ہے جو سنہری تاروں سے بننے کے کپڑے کے لیے مشہور ہے۔ جملاتے سنہری پس منظر میں، لال، گلابی اور ارغوانی رنگوں کے مختلف نقش و نگار (تیل بولٹے، شجر زندگی، کلیاں اور پھولدار حاشیے) جواہرات کی طرح چکتے ہیں۔


شجر بُنائی میں بھرا دیا جانے کے غیر مسلسل تاروں کا طریقہ اپنایا جاتا ہے اور مختلف رنگوں والے دھاگے استعمال کیے جاتے ہیں۔

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کپڑے کی سیدھی اور اٹی دونوں سطحیں ایک جیسی لگتی ہیں۔


سورت، احمد آباد، آگرہ، دہلی، بہان پور، تروچارپلی اور تھنجاوڑ رزروی برکیڈ بُنائی کے مشہور قدیم روایتی مرکز ہیں۔



کانچی پورم




کم خواب




بلوچار ٹینے دار

پچانی



بنارس بروکلیڈ



کلوشاں

208



شال جاموار



شال

اون (Wool)

اون کی بیدار زیادہ تر ہندوستان میں علاقوں جیسے ہماچل پردیش، لداخ، جموں و کشمیر اور اتر پردیش کی پہاڑیوں، مغربی بنگال کی پہاڑیوں، بعض شمال مشرقی ریاستوں، پنجاب، راجستھان اور سطحی و مغربی ہندوستان کے کچھ مقامات میں ہوتی ہے۔

ہندوستان میں بھیروں کے علاوہ کچھ مخصوص جانوروں (پہاڑی بکرا، خرگوش اور اونٹ) کے بال بھی اون بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اون سے متعلق قدیم ترین تذکروں میں پہاڑی بکروں اور کچھ ہرن جیسے جانوروں سے حاصل شدہ بہت باریک بالوں کا حوالہ ملتا ہے۔

گیارہویں صدی کے کشمیری ادب سے اُس وقت کے مختلف رنگوں والے اونی کپڑوں کا بتا چلتا ہے۔ چودھویں صدی سے، ایرانی اثرات کے تحت، شالوں کی بیدار شروع ہوئی۔ ان شالوں میں پیچیدہ نقش و نگار اور طرح طرح کے رنگوں والی پیچیدہ مشجر بُنائی کا استعمال ملتا ہے۔ بہترین شالیں پیشینہ اور شاہ توش، کی ہوتی ہیں جو پہاڑی بکروں کے بال ہوتے ہیں۔ اس فن کو فروغ دینے کا سہرا مغل بادشاہوں کے سر ہے۔ کشمیری شالیں اب دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اٹھارہویں صدی سے، چھپے ہوئے سوتی کپڑوں کی طرح ان شالوں کو بھی بڑی تعداد میں برآمد کیا جانے لگا ہے۔ بعد میں ان شالوں میں زردوzi (Embroidery) کا کام بھی شامل ہو گیا۔ شالوں کے نقش و نگار کشمیری کی قدرتی خوب صورتی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان شالوں پر آم کا موقف (Motif) جس کو پیسلے (Paisley) کہا جاتا ہے بے شمار رنگوں اور شکلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ جامدوار شالوں کو اکبر نے متعارف کرایا۔ یہ شالیں بہت بڑی ہوتی تھیں جنہیں عام لباس کی طرح بھی استعمال کیا جاسکتا تھا۔ آپ نے میوزیم یا کتابوں میں ایسی تصویریں دیکھی ہوں گی جن میں مغل بادشاہوں کو پیچیدہ نقش و نگار والے چوغے پہنچنے دکھایا گیا ہو۔

ہماچل پردیش کی شالوں میں اکثر گوشہ دار اقلیدی نقش و نگار بُنے ہوتے ہیں جو سیدھے افقی خطوط، گولوں یا دھاریوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ایک دو نقش عمودی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ وادی کلو شالوں اور بعض دیگر اونی کپڑوں جیسے 'پتو' اور 'دھرو' (مردوں کی چادریں) کی بُنائی کے لیے مشہور ہے۔

ادھر ایک حصے سے بعض اور مقامات پر بھی شالوں کی بُنائی نے اہمیت اختیار کر لی ہے۔ اس سلسلے میں پنجاب کے امرتسر اور لدھیانہ شہر اور اتر اکھنڈ اور گجرات جیسی ریاستیں خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔

10E.4 رنگائی (Dyeing)

ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ ہندوستان میں رنگائی کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ انیسویں صدی کے وسط سے پہلے تک رنگائی کا سامان فقط قدرتی ذرائع سے حاصل کیا جاتا تھا۔ رنگائی کا یہ سامان بیشتر پیڑ پودوں کی چھال، پتیوں، پھولوں، جڑوں اور بیجوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ کچھ کپڑوں اور معدیبات سے بھی رنگ حاصل ہوتا تھا۔ رنگائی کے قدیم نمونوں کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کو ہمیشہ سے رنگائی کے کیمیائی عمل اور ان کے استعمال کی تکنیکوں کا بڑا گہر اعلم تھا، جس سے وہ کچھ رنگوں والے کپڑوں کی بیدار اور کے لیے مشہور تھے۔

رنگائی روک کپڑے (Resist Dyed Fabrics)

رنگوں سے ڈیزائن بنانے کا سب سے پرانا طریقہ رنگائی روک، تکنیک ہے۔ رنگائی میں کمال حاصل کرنے کے بعد یہ بات سوچی گئی کہ اگر کپڑے کے بعض حصوں کو روک جذب کرنے سے روک دیا جائے تو اس کے اصل روک باقی رہیں گے اور ایک ڈیزائن تیار ہو جائے گی۔ رنگائی روک کے سامان میں دھاگہ، کپڑے کے ٹکڑے یا پھر مٹی اور مووم جیسی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں جو روکنے سے روکتی ہیں۔ رنگائی روک کا سب سے عام طریقہ دھاگے سے باندھنا ہے۔ ہندوستان میں تیار کیے جانے والے ٹائی اور ڈائی (Tie and dye) کپڑوں کی دشکلیں ہیں۔ ایک ”کپڑے کی ٹائی اور ڈائی“ اور دوسرا ”دھاگے کی ٹائی اور ڈائی“۔ دونوں ہی صورتوں میں اس حصے کو دھاگے سے کس کر باندھ دیا جاتا ہے جس پر ڈیزائن بنانا مقصود ہو اور پھر رنگائی کی جاتی ہے۔ رنگائی کے دوران، بندھے ہوئے حصوں پر، کپڑے کی زمین، پر اصل روک برقرار رہتے ہیں۔ خشک ہو جانے پر بندھے ہوئے کچھ حصوں کو کھول دیا جاتا ہے اور کچھ حصوں کو پھر باندھ کر رنگائی کی جاتی ہے۔ مزید رنگوں کے لیے اس عمل کو دہرا یا جاسکتا ہے جس سے ہلکے روک شونخ ہو جاتے ہیں۔

”ٹائی اور ڈائی“ کی ایک مذہبی اہمیت بھی ہے۔ ہندوؤں میں کسی بھی مذہبی تقریب سے پہلے کلائی پر جو دھاگہ باندھا جاتا ہے اسے ”ٹائی رنگائی“ کے ذریعے سفید، پیلا اور لال رنگ دیا جاتا ہے۔ ”ٹائی اور ڈائی“ کے ذریعے رنگے ہوئے کپڑوں کو شادی کی تقریبات کے لیے مبارک سمجھا جاتا ہے۔ دہن کالباس اور مردوں کی گپٹیاں عام طور پر ایسے ہی کپڑوں کی ہوتی ہیں۔



(i) کپڑے کی ”ٹائی اور ڈائی“ بندھنی، چڑی اور لہریا کچھ ایسے کپڑوں کے نام ہیں جن میں بُنائی کے بعد کپڑے کو باندھ کر نقش و نگار بیدار کیے جاتے ہیں۔ بندھن بھی ”ٹائی اور ڈائی“ کا ایک مخصوص ڈیزائن ہے جس کے نقش میں بے شمار بُنکیاں (Dots) ہوتی ہیں۔ ایک اور قسم لہریے کی ہے جس کے نقش و نگار ٹیڑھی دھاری یوں کی شکل کے ہوتے ہیں۔ گجرات اور راجستان اس قسم کے کپڑوں کے گڑھ ہیں۔

(ii) دھاگے کی ”ٹائی اور ڈائی“: دھاگے کی ”ٹائی اور ڈائی“، ڈیزائن دار کپڑوں کو بنانے کا ایک پیچیدہ عمل ہے۔ ایسے کپڑوں کو ایکات (Ikat) کپڑے کہا جاتا ہے۔ یہ کپڑے جس تکنیک سے تیار کیے جاتے ہیں اس میں تانے یا بانے کے تاروں کو یا دونوں کو بُنائی سے پہلے ہی روک دیا جاتا ہے۔ اس طرح جب کپڑے اُبنا جاتا ہے تو اس پر خصوص نقش و نگار ابھر آتے ہیں۔ یہ نقش و نگار دھاگوں کے رنگے ہوئے حصوں پر مختصر ہوتے ہیں۔ اگر صرف تانے یا بانے کا کوئی ایک تار تانی کے ذریعے رنگا گیا ہے تو اسے اکیلا ایکاٹ (Single Ikat) کہتے ہیں اور اگر اسی طرح دونوں تاروں کو باندھ کر رنگا گیا ہے تو اسے مخلوط ایکات (جس میں دونوں تار جدا گانہ نقش بناتے ہیں) یا دو ہر ایکات (جس میں ایک متحدة نقش ابھرتا ہے) کہا جاتا ہے۔

210

ایکات کا ری گرنے صرف رنگائی کے ماہر ہوتے ہیں بلکہ ان کو بُنائی کی تکنیکی معلومات بھی ہوتی ہے، جس کپڑے اور جس ڈیزائن کی تیاری مقصود ہے اس کے لیے تانے اور بانے کے مطلوب تاروں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ دھاگوں کو باندھنے اور پھر رنگائی کے بعد بُننے کے لیے بڑی مہارت درکار ہوتی ہے تاکہ تانے اور بانے کے تاروں کی آمیزش سے ڈیزائن تیار کیا جاسکے۔

211



ایکات فیبرک



212

ایکات فہرک

گجرات ایکات بنائی کی شان دار روایت کا امین ہے۔ پٹولا ریشم کی بنائی ہوئی دھرے ایکات کی سب سے زنگین سائزی ہے۔

صلع مہسانا کا پاؤں علاقہ ان سائزیوں کی پیداوار کا بڑا مرکز ہے۔ ان سائزیوں پر اقلیدی (Geometrical) نقش و نگار کے علاوہ، جن پر مقامی فن تعمیر کے نمایاں اثرات ہوتے ہیں، پھولوں، چڑیوں، جانوروں اور ناچتی ہوئی گڑیوں کے نقش و نگار بھی عام ہیں۔ عموماً لال، پیلا، ہرا، کالا اور سفید رنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ رنگ ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں جس سے خاکہ بگڑتا ہے۔

اڑیسہ میں بھی ایکات سائزیاں اور دیگر ریشمی اور سوتی کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ یہاں اس عمل کو ”بندھا“ کہا جاتا ہے، چاہے یہ اکیلا ایکات ہو یا مخلوط۔ پٹولا کے مقابلے میں ڈیزائن زیادہ نرم اور خرم دار ہوتی ہے۔ یہاں کے ڈیزائنوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ بانے کا ایک اضافی تار بھی چھوٹے تصویری ڈیزائنوں میں بُنا ہوا ہوتا ہے۔

آندھرا پردیش کے پوچم پلی اور چیرال علاقے میں سوتی ایکات کپڑے تیار ہوتے ہیں جنہیں ”تیلیارomal“ کہا جاتا ہے۔ یہ کپڑے 75-90 سینٹی میٹر کے چوکو رکٹلے ہوتے ہیں جو عام طور پر جوڑے (Pair) کی شکل میں بُنے جاتے ہیں۔ موٹے کپڑوں سے لگنیاں، کاندھے پڑانے والے رومال یا ماہی گیروں کے لگنوٹ بنتے ہیں جب کہ باریک کپڑوں سے دوپٹے یا نقاب بنائے جاتے ہیں۔

10E.5 زردوzi (Embroidery)

213

کپڑے پر ریشم، سوت، سونے یا چاندی کے تاروں سے آرائش یا کڑھائی کافن زردوzi کہلاتا ہے۔ اس میں سوتی یا سوتی جیسا کوئی آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ زردوzi ایک قدیم دست کاری ہے جسے سوتی سے کی جانے والی مصوری کہا جاسکتا ہے۔ زردوzi کا کام دنیا کے بہت سے حصوں میں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بھی یہ کام بہت قدیم زمانے سے ہوتا آیا ہے اور ایسے شواہد موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ زردوzi پورے ملک میں اس طرح راجحت تھی کہ

- اسے تمام سماجی اور اقتصادی سطحوں پر خانہ بدوش چرواحوں سے لے کر شاہی گھرانوں کے افراد تک میں مقبولیت حاصل تھی۔
- یہ کام ہر قسم کے کپڑے پر کیا جاتا تھا جن میں موٹے سوتی کپڑے، اونٹ کے بالوں سے لے کر نہایت عمدہ ریشمی کپڑے اور پشاہیہ شامل تھے۔
- اس میں سوت، اون، ریشم یا زری اور اس کے ساتھ ہی کوڑیوں، شیشے اور آئینے کے ٹکڑوں، موتیوں، جواہرات اور سکوں جیسے ہر قسم کے سامان اور دھاگوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔
- اسے مختلف چیزیں جیسے شخصی لباس، گھر بیلو استعمال کی چیزیں، گھروں کی سجاوٹ کا سامان، مذہبی نذر و نیاز اور مولیشیوں اور جانوروں کی آرائش کا سامان بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔

زردوzi کو عام طور پر ایک گھر بیلو دست کاری اور ایسا پیشہ سمجھا جاتا ہے جسے عورتیں خالی وقت میں لباسوں اور گھر بیلو کپڑوں کو سجائنا کے لیے انجام دیتی ہیں۔ تاہم ہمارے ملک اور دنیا کے بعض اور حصوں میں زردوzi کی بعض صنوعات کی تجارت بھی ہوتی

ہے۔ آئینے زردوzi کی بعض طرزوں پر ایک نظر ڈالیں جن کی پیداوار آج کل تجارتی پیمانے پر ہو رہی ہے۔

پھلکاری (Phulkari)

پھلکاری پنجاب کی زردوzi کا فن ہے۔ یہ اصطلاح زردوzi کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور اس چادر یا شال کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جس پر اس قسم کی زردوzi کا کام کیا گیا ہو۔ پھلکاری کا مطلب ہے پھولوں کا کام یا پھولوں کی کیاری۔ ایک اور اصطلاح 'باغ'، کا بھی یہی مفہوم ہے۔ پھلکاری خاص طور پر ایک گھریلو دست کاری تھی جسے لڑکیاں اور خواتین بناتی تھیں اور کبھی بھی ان کی دیکھ رکیہ میں ملازمائیں بھی بنایا کرتی تھیں۔ زردوzi کا کام کپے اور غیر بٹے ریشم (جنے پت، کہتے ہیں) سے موٹے سوتی (کھدر) کے کپڑوں پر کیا جاتا ہے۔ 'باغ' کی تھی زردوzi میں، کپڑے از ردوzi سے اتنا ڈھک جاتا ہے کہ کپڑے کا بنیادی رنگ بس الٹی طرف ہی دکھائی دیتا ہے۔ روایتی طور پر یہ زردوzi شادی کی تقریبات سے تعلق رکھتی تھی اور نیاں اپنی نواسیوں کے لیے یادویاں اپنی بھوؤں کے لیے 'باغ' بنایا کرتی تھیں۔





کسوٹی (Kasuti)

کسوٹی لفظ کرناٹک کی زردوzi کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ کسوٹی (Kasuti) فارسی لفظ کشیدہ سے مانو ہے جس کے معنی کڑھائی کے ہیں۔ پھلکاری کی طرح یہ بھی ایک گھریلو دست کاری ہے جسے عورتیں انجام دیتی تھیں۔ یہ زردوzi کی نازک ترین شکل ہے۔ اس میں زردوzi کے دھاگے کپڑے کی بنائی کے نمونے پر ہی چلتے ہیں۔ کسوٹی ریشمی کپڑوں پر ریشمی دھاگوں کی باریک لڑیوں سے تیار کی جاتی ہے۔ اس میں جو رنگ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی کپڑے کی زمین سے میل کھاتے ہیں۔ اس کے نقش و نگار علاقے کے مندروں کے فن تعمیر سے متاثر نظر آتے ہیں۔



214

کانٹھا (Kantha)

بنگال کی کانٹھا کشیدہ کاری پرانی سوتی سائزیوں یا دھوتویوں کی تین چار ہوں پر مشتمل بنیاد پر کی جاتی ہے۔ یہ زردوzi لخاف یا رضائی میں ڈورے ڈالنے جیسا کام ہے۔ اس طرح جو چیزیں ہیں اسے بھی کانٹھا کہتے ہیں۔ اس قسم کی زردوzi پھٹی سائزیوں کی مضبوطی کے لیے روگری سے شروع ہوئی ہو گی لیکن اب اس سلاٹی کے ٹانکے کپڑے پر بنی شکلوں کو بھرنے کے کام آتے ہیں۔ کانٹھا کی اصل زمین سفید ہوتی ہے جس پر مختلف رنگ کے دھاگوں سے زردوzi کی جاتی ہے۔ یہ دھاگے اصل میں پرانی سائزیوں کے کناروں سے نکالے جاتے تھے۔ کانٹھا سے جو چیزیں ہیں وہ چھوٹے سائز کی لگھے داینوں اور پرسوں (Purses) سے لے کر مختلف سائز کی شالوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ کانٹھا کی مذہبی اہمیت بھی ہے کیوں کہ ان کو مذہبی مقامات پر پیش کی جانے والی نذر کے طور پر یا پھر دیگر خصوصی موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔



ٹائی اور ڈائی فیبرک



کشیدہ کاری (Kashida Kari)

کشیدہ ایک عمومی اصطلاح ہے جو کشمیر کی کشیدہ کاری یا زردوzi کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سوزنی، اور زلک دوزی، کشمیر کی دو اہم زردوzi یاں ہیں۔ کشمیر اون کا گڑھ ہے، اسی لیے وہاں اونی کپڑوں پر زردوzi کی جاتی ہے، جن میں نفس قسم کی شالوں سے لے کر فیرن جیسے درمیانی موٹائی کے لبادے اور موٹے نمدے جو فرش کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، شامل ہیں۔

شالوں اور نفس اونی کپڑوں پر جوزردوzi ہوتی تھی وہ شاید ابتداء میں ان نقائص کی مرمت کے لیے کی جاتی ہوگی جو بُناۓ کے دوران پیدا ہو جاتے تھے۔ بعد میں کئی رنگوں والے بُناۓ کے نقش و نگار بنائے جانے لگے جن میں چین کی زردوzi کے طرزوں (جیسے سامن کی جنیہ اور چھوٹی بڑی بخیوں) کا اضافہ ہوا۔ سوزنی زردوzi میں وہ تمام کشیدہ کاری شامل ہے جو کپڑے کی سطح سے ہم آپنگ اور کپڑے کے دونوں طرف یکساں ہوتی ہے۔ یہ زردوzi ریشم کے دھاگوں سے کی جاتی ہے جن کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں اور ان سے بنائے گئے ڈیزائن قدرتی معلوم ہوتے ہیں۔

بُناۓ کے لیے استعمال کی جانے والی طغر اسازی کی تکنیک میں کبھی بھی معنوی اصلاحات اور تبدیلیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ کام زردوzi کی طرح بُناۓ کے نمونے کو دو ہر اکر کیا جاتا تھا جسے بُناۓ کے نمونے کی روگری کہتے تھے۔ اسی لیے کشمیر کے زردوzi کرنے والوں کو آج بھی روگر کہا جاتا ہے۔

217

‘زلک دوزی’ پیچ دارٹاکوں کی زردوzi ہے جو آریٰ سے کی جاتی ہے۔ آری ایک ایسا ٹک ہوتا ہے جیسا موبی استعمال کرتے ہیں۔ ابتداء میں اس طریقے کو خاص طور پر نمدوں پر استعمال کیا جاتا تھا لیکن اب اسے قسم کے کپڑوں اور شالوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا تمام زردوziوں کے بخلاف، کشمیری زردوzi ایک تجارتی سرگرمی ہے جسے مرد کرتے ہیں اور اس کی مصنوعات بڑے پیمانے پر خریدی جاتی ہیں۔

چکن کاری (Chikan Kari)

اتر پردیش کی چکن کاری ایک ایسی زردوzi ہے جس کا استعمال شروع سے ہی تجارتی مقاصد کے لیے کیا جاتا رہا ہے۔ اگرچہ اس کا بنیادی کام خواتین کرتی ہیں لیکن اس کے ماہرین کا اور انتظام کا خاص طور پر مرد ہیں۔ لکھنؤ کا اس کام کا خاص مرکز سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں یہ کام سفید کپڑے پر سفید دھاگے سے کیا جاتا تھا۔ اس میں کپڑے کی الٹی طرف کشیدہ کاری کے ذریعے کڑھائی کے ٹاکوں سے نقش ابھارے جاتے ہیں۔ اس کی خصوصیت اس کی جالی دار سطح ہوتی ہے جو زردوzi کے ذریعے کپڑے کے دھاگوں کو کس کر بُناۓ جاتی ہے۔ اس کی تیسری خصوصیت و نقش و نگار ہیں جو ٹاکوں میں گرہ لگا کر پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ ہیں چاول یا باجرے کے دانوں کے مشابہ ہوتی ہیں۔ ادھر ایک عرصے سے اس کام میں زری کے دھاگے، چھوٹے چھوٹے موتی دانے اور چمک دار ستارے بھی نظر آتے ہیں جن کو ڈیزائن میں شامل کر لیا گیا ہے۔ چوں کہ یہ ایک تجارتی سرگرمی ہے اس لیے اس کے ڈیزائن اور اس کے طرز فیشن کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔

بدلتے رہتے ہیں۔

ગجرات کی زردوزی کی ثروت مند روایت

(Gujarat has a very rich tradition in embroidery)

گجرات بنیادی طور پر خانہ بدوش قبیلوں کی سرزمین ہے۔ یہ قبیلے مختلف ثقافتی روایات سے متعلق ڈیزائنوں اور تکنیکوں کی آمیزش کرتے رہے ہیں۔ بھاول کی زردوزی زندگی کے تمام بہلوؤں کو محیط ہے۔ دروازوں کی سجاوٹ تورن (Torans) یا ’پچی پتی‘ سے کی جاتی ہے، دیواریں ’چکلوں‘ یا ’چندروں‘ سے سجاوی جاتی ہیں اور گنیش کی مورتیاں نصب کی جاتی ہیں۔ (یہ سب چیزیں خانہ بدوشوں کے طرز زندگی میں اہم ہیں)۔ مردوں، عورتوں اور بچوں کے لباس مختلف قبائلی انداز میں سجائے جاتے ہیں اور اسی طرح ان کے مویشیوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں کے غلاف بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ کئی زردوزیاں قبیلوں کے نام پر ہیں جیسے ’مہاجن‘، ’رباری‘، ’موچی بھرت‘، ’کابنی بھرت‘ اور ’سندھی‘۔ ان میں بیشتر بہت شوخ اور بھر کیلے رنگ استعمال کیے جاتے ہیں۔

گجرات کی پارہ دوزی (Applique work) کا اپنا الگ انداز ہے۔ یہ ایک طرح کی پیوند کاری ہے۔ اس میں مختلف ڈیزائن کے کپڑوں کے کپڑوں کو مختلف سائز اور مختلف شکلوں میں کاٹ لیا جاتا ہے اور انھیں ایک سادہ کپڑے پر سی لیا جاتا ہے۔ ان کا استعمال گھر میں استعمال ہونے والے کپڑوں کے لیے ہوتا ہے۔


سورا شتر اور گچھ میں موٹیوں (Beads) کا کام بھی بہت اہم فن ہے۔ یہ زردوزی کا کام نہیں ہے بلکہ دھاگوں کے ایک جال میں مختلف رنگوں کے دانے پر دیے جاتے ہیں۔ اس سے برتوں کے غلاف، پردے اور پس وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔

گجرات سے راجستان کی نزدیکی اور خود راجستان میں قبائلی آبادی کی موجودگی کے سبب ان دونوں ریاستوں کی زردوزی کے فن میں بڑی یکساختی ہے۔ البتہ تصویریں اور ان کے رنگ مختلف قبائل میں مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کے استعمال کے موقع بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔

218


چمبارومال (Chamba mals)

ہماچل پردیش کی سابق پہاڑی ریاست چمبار کے چمبارومال، خاص مہمانوں یا ہم شخصیتوں کو پیش کیے جانے والے تخفیف کی تھا لیوں پر ڈھکے جاتے تھے۔ ان رومالوں پر دیوی دیتاوں کی ولی ہی تصویریں ہوتی ہیں جیسی پہاڑی مصوڑی کے نمونوں پر نظر آتی ہیں۔ ان میں باہر باہر رواں سلاکی ہوتی ہے اور دھاگوں کے ذریعے صورتیں ابھاری جاتی ہیں۔ سب سے اچھی تصویریں وہ ہوتی ہیں جو کپڑے کے دونوں طرف نظر آتی ہیں۔




219


کسوتی امپورڈیری



چکن کاری امپورڈیری



کا نتھا امبورڈیری



چکن کاری



چکلا

220



ترن

10.E.6 ماحصل (Conclusion)

ہندوستان کے خوب صورت ملبوسات اپنے حسن اور فن کاری کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ مسلسل حملوں، بھرتوں، سیاسی تھکل پتھل اور بہت سے دیگر نشیب و فراز نے ہندوستان کے کپڑا سازی کے فن کو بہت زرخیز بنادیا ہے۔ آج ہندوستانی ملبوسات کی زرخیزی اور تنوع یہاں مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے باقیے باہم کی قدیم روایت کی مرہون منت ہے۔

ہندوستان کے بعض خطوں میں کپڑا سازی کی روایات بہت پرانی ہیں۔ ان روایات کا تعلق مختلف قسم کے ریشوں، سوت، ریشم اور اون، سے بھی ہے اور کپڑا سازی کے مختلف مراحل۔ کتابی، بُنای، رنگائی، چھپائی اور تزمین کاری۔ سے بھی۔ وقت کے ساتھ، کپڑے کی پیداوار کے مرکز میں رنگ، ڈیزائن، آرائش اور کپڑوں کی مخصوص مصنوعات کے استعمال کے خواضے طریقے وضع کیے گئے۔ ہماری سماجی اور معاشری زندگی میں ایسے مرکز کی اہمیت اب بھی باقی ہے جہاں صرف مذہبی اور دیگر سماجی رسوم سے وابستہ کپڑوں کی ہی پیداوار نہیں ہوتی بلکہ عصری ضروریات کا خیال رکھنے والی مصنوعات بھی تیار کی جاتی ہیں۔ یہ مرکز مختلف قسموں کے کپڑے بنانے اور روایتی کپڑوں کا متبادل استعمال تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ اب محض چند منتخب کپڑوں کی پیداوار کے باجائے بڑے پیمانے پر کپڑوں کی پیداوار پر توجہ دی جا رہی ہے۔

ہندوستانی کپڑا سازی کی ترقی بیانام روایات آج بھی باقی ہیں۔ البتہ نئے نئے ڈیزائنوں کی ترقی کی وجہ سے قدیم روایات میں اور چک دک آگئی ہے۔ بہت سی سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمیں اور کئی تعلیمی ادارے کپڑا سازی کی روایات کے تحفظ اور انھیں نئی زندگی دینے کے لیے مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں۔

کلیدی اصطلاحات

بروکیڈ(Brocade)، ململ، جامدani، کم خواب، شال، ٹپسٹری(Tapestry) ’ٹائی اور ڈائی’(Tie and Dye)، ایکات(Ikat)، پٹولا، زردوzi(Embroidery)، پھل کاری، کشیدہ کاری، چکن کاری

سوالات برائے نظر ثانی

- 1۔ ہندوستان کی کپڑا سازی کے فن کی قدامت کے بارے میں کن تاریخی آخذ سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے؟
- 2۔ سوتی کپڑوں کی وہ کون سی دو خصوصیات ہیں جنہوں نے ہندوستانی کپڑوں کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا؟
- 3۔ سلک بروکیڈ کی بُنای سے متعلق شعبوں کے نام بتائیے۔ ہر ایک کی اہم خصوصیات بھی لکھیے۔
- 4۔ ہندوستانیوں کو دنیا کا اسٹار گریز کیوں کہا جاتا ہے؟
- 5۔ آپ درج ذیل اصطلاحات کے ساتھ کن چیزوں کو وابستہ کریں گے؟
پھل کاری، سوتی، کشیدہ کاری، کانٹھا اور چکن کاری

عملی کام 11

ہندوستان میں کپڑا سازی کی روایات

موضوع: علاقے میں موجود کپڑا سازی کے روایتی فنِ رہست کاری سے متعلق معلومات کی فراہمی
کام: کسی منتخب علاقے میں پائی جانے والے کپڑا سازی کے روایتی فن اور رہست کاری سے متعلق معلومات اور تصویریں کی فہرست
تیار کرنا۔

عملی کام کا مقصد: ہندوستانی دست کاری اور اس کے لاکھوں دست کار، روایتی علم اور دلیلیں لٹکانا لو جیوں کا نہایت وسیع اور اہم وسیلہ ہیں۔
اس سے طلباء کو ہندوستان کی دست کاری کی روایات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اس طرح وہ متعلقہ معلومات حاصل کر سکیں گے اور ان میں
کپڑا سازی کی مختلف روایات کو بروئے کار لانے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اس سے دیکھی اور شہری نوجوانوں کے درمیان رابطہ بھی
برٹھیں گے۔

عملی کام کا طریقہ کار: اپنے علاقے کے نزدیک ہونے والی کسی نمائش، دست کاری کے میلے یا میوزیم جا کر کپڑا سازی صنعت کی
ابتداء تاریخ، مختلف کپڑوں، ہنریکوں، رنگ، ڈیزائن اور دست کاری کی مصنوعات کے بارے میں معلومات جمع کیجیے۔ جمع کی گئی
معلومات کو فوٹو ریا کیٹیا لاگ کی شکل میں پیش کیجیے۔

222

دست کاری کا تعلق کٹائی، بنائی، رنگائی، چھپائی یا کڑھائی جیسے کپڑا سازی کے مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔

مزید مطالعے کے لیے حوالے کی کتابیں

- Chattopadhyay, K. 1985. Handicrafts of India. Indian Council for Cultural Relations. New Delhi.
- Chisti, R. K. and Jain, R. 2000. Handcrafted Indian textiles. Roli Books. New Delhi.
- Damhorst, M L., Miller, K. A., and Michelman, S. O. 2001. The meanings of dress. Fairchild Pub. New York.
- D'Souza, N. 1998. Fabric care. New Age International Pvt. Ltd. New Delhi.
- Ghosh, G.K. and Ghosh, Shukla 1983. Indian textiles. Rinehart and Winston. New York.
- Gupta, C. B. 2004. Management Concepts and Practices (5th ed.). Sultan Chand& Sons. New Delhi.
- Harnold, K. H. 2001. Essentials of Management. Tata McGraw Hill. New Delhi.
- Joseph, M. L. 1986. Introductory Textile Science. Rinehart and Winston. New York.
- Joshi, S.A. 1992. Nutrition and Dietetics. Tata McGraw Hill. New Delhi.
- Kumar, K. J. 2008. Mass Communication in India. Jaico Publishing House Mumbai.
- Mahan, K. L. and Escott, S.S. 2008. Krause's Food and Nutrition Therapy (12th ed.). Elsevier Science. Boston
- Mangal, S.K. 2004. Advanced Educational Psychology. Prentice Hall. New Delhi.
- Mishra, G. and Dalal, A. K. (Eds.). 2001. New Directions in Indian Psychology: Vol. 1. Social Psychology. Sage. New Delhi.
- Mudambi, S.R. and Rajagopal, M.V. 2001. Fundamentals of Foods and Nutrition. New Age International Pvt. Ltd. New Delhi.
- Pandey, I. M. 2007. Financial Management. (9th ed.). Vikas Publishing House. New Delhi
- Pankajam, G. 2001. Extension Third Dimension of Education. Gyan Publishing House. New Delhi.
- Rao Raja, S.T. 2000. Planning of residential buildings. Standard Distributors. New Delhi.
- Saraswathi, T. S. 1999. Culture, Socialisation and Human Development. Sage. New Delhi
- Sawhney, H. K. and Mital, M. 2007. Family Finance and Consumer Studies. Elite Publishing House. New Delhi.
- Sharma, D. 2003. Childhood, Family and Socio-cultural Change in India: Reinterpreting the inner world. OUP. New Delhi.
- Sharma, N. 2009. Understanding Adolescence. New Delhi: National Book Trust.
- Srivastava, A. K. 1998. Child Development: An Indian Perspective. NCERT. New Delhi.
- Sturm, M. M. and Grieser, E. H. 1962. Guide to Modern Clothing. Mc Graw Hill. New York.
- Vidyasagar, P.V. 1998. Handbook of textiles. Mittal Pub. New Delhi.
- Wadhwa, A., and Sharma, S. 2003. Nutrition in the community. Elite Pub. New Delhi.
- Yadava, J.S., and Mathur, P. 1998. Issues in mass communication, the Basic Concepts. Vol. 1. Kanishka Pub. New Delhi.

انسانی ماحولیات اور علوم خاندان داری

گیارہویں اور بارہویں جماعت کے لیے نصاب

جواز

انسانی ماحولیات اور علوم خاندان داری (HEFS) جسے پہلے ہوم سائنس کہا جاتا تھا، کا نصاب این سی ای آرٹی کے ”قومی درسیات کا خاکہ 2005“ کے اصولوں کو پیش نظر کھڑکیا گیا ہے۔ روایتی طور پر ہوم سائنس کا شعبہ پانچ موضوعات کا احاطہ کرتا ہے جن کے نام ہیں، غذا اور تنفسی، فروغ انسانی اور مطالعات خاندان داری، کپڑے اور ملبوسات، وسائل کا انتظام اور مواصلات اور توسعہ۔ ان تمام شعبوں کا اپنا مخصوص مواد ہے اور مخصوص مرکز توجہ ہے جو ہندوستان کے سماجی و ثقافتی تناظر میں فرد اور خاندان سے متعلق مطالعات میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ نصاب اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ وہ کئی صورتوں میں اس شبیہ کے روایتی خاتم کر دی گئی ہیں۔ ایسا اس لیے کیا کامیاب ہوا ہے۔ نئے تصورات کے مطابق اس شبیہ کے مختلف میدانوں کے درمیان حائل سرحدیں ختم کر دی گئی ہیں۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ طلبہ میں گھر اور سماج میں زندگی کی مجموعی تفہیم کی صلاحیت پیدا کی جاسکے۔ اس بات کی خصوصی کوشش کی گئی ہے کہ گھر اور سماج میں ہر طالب علم کی زندگی کے تین احترام کے جذبے کی ترسیل ہو سکے اور نصاب کو مختلف تناظرات میں رہنے والے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے مناسب بنایا گیا ہے۔ ان میں ایسے لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل ہیں جو بے گھر ہیں۔ اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ سبھی یونیٹ اپنے مواد کے اعتبار سے حصے داری، مساوات اور اجتماعیت کے نمایاں اصولوں پر پورے اتریں۔ ان میں صنفی حساسیت، دینی - شہری - قبائلی مقامات ذات، طبقہ، روایتی اور جدید دونوں اثرات کی قدر کے تعلق سے تنوع اور تکثیریت کا احترام، سماجی سروکار قومی علامات پر احساس تفاخر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نئے طریقہ کار کے تحت ایسی جامع کوشش کی گئی ہے کہ سائنس اور سوشنل سائنس کے دیگر مضامین کے درمیان حائل اختلافات کو دور کر کے اسکوں میں آموزش کو مر بوط کیا جائے۔

224

عملی کاموں کی ایک اختراعی اور اصلی خصوصیت ہے اور وہ ایسی نئی تکنیک اور اطلاق سے استفادے کے عکس ہیں۔ جن سے زندہ حقائق کے ساتھ ضروری وابستگی کو استحکام حاصل ہوگا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ عملی زندگی کے تجربے سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ عملی کاموں کی تشکیل اس طرح کی گئی ہے کہ ان سے تقیدی خور و فکر کو فروغ ملے۔ مزید یہ کہ بندھی گئی صنفی حیثیتوں پر بحث سے پہلے ہیز کرنے کی شعوری کوشش کی گئی اور اس طرح تجربات کو لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے زیادہ بامعنی اور قابل شمولیت بنایا گیا ہے۔ عملی کاموں کو خاندان اور سماج میں دست یاب وسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی کرنا ضروری ہے۔

کورس میں مدت زندگی کا طریق کار کے تحت گیارہویں جماعت میں نشوونما پرمنی خاک ک اختیار کیا گیا ہے جو نوبلوغت سے شروع ہوتا ہے۔ نشوونما کا وہ مرحلہ ہے جس سے طلبہ گزر رہے ہیں۔ کسی شخص کی خود اپنی نشوونما کے ہی مرحلے سے آغاز دلچسپی کا سبب ہو گا اور طلبہ میں یہ صلاحیت پیدا ہو گی کہ وہ ان جسمانی اور جذباتی تبدیلیوں کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو گی جن سے وہ گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد بچپن اور بلوغت کا مطالعہ ہے۔ ہر یونٹ میں مسائل اور سروکاروں کے تعلق سے بات کی گئی ہے ساتھ ان مسائل سے نہیں کے لیے ضروری سرگرمیوں اور وسائل پر بھی توجہ کی گئی ہے۔

گیارہویں جماعت کے لیے فرد اور خاندان، اور ”گھر“ پر توجہ مرکوز کی گئی ہے تاکہ انفرادی زندگیوں اور سماجی تقاضے کی حرکیات کی تفہیم ہو سکے۔ اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کی منطق یہ ہے کہ اس سے نوبلوغت کے مرحلے میں طلبہ کو خاندان کے تناظر میں خود کو سمجھنے میں مدد ملے گی جو اس کے برعکس وسیع تر ہندوستانی سماجی و ثقافتی تناظر میں پوشیدہ ہے۔

بارہویں جماعت کے لیے فرد کی پوری زندگی میں عمر کے لحاظ سے ”کام اور پیشوں“ پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس تناظر میں کام کو ایک ایسی لازمی انسانی سرگرمی تصور کیا گیا ہے جو افراد خاندان اور سماج کی ترقی اور استحکام میں مدد گار ہوتی ہے۔ اس کی قدر و قیمت کا تعلق محض اقتصادی پہلوؤں سے نہیں ہے۔ کام رو زگار اور پیشوں کی اہمیت اور ان کے باہمی تعلق کو سمجھنے میں طلبہ کی مدد کی جائے گی۔ اس تصور کی تفہیم کے لیے طلبہ کو اپنے ایف ایس کے متعلقہ شعبوں میں زندگی کی مہارتیں اور کام کی مہارتیں سکھائی جائیں گی۔ اس سے بنیادی مہارتوں کی تخلیص اور ان جدید ترین پیشہ وار انہ مہارتوں سے واقعیت میں آسانی ہو گی جن کی ضرورت کورس میں مہارت بہم میں بیان کردہ منتخب شعبوں میں اختصاص کے لیے ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ مہارتیں طالب علم کی نجی سماجی زندگی کے لیے کارآمد ہوں گی نیز مستقبل میں کسی کیریئر کے انتخاب کے سلسلے میں طالب علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ثابت ہوں گی۔

مقاصد

انسانی ماحدیات اور علوم خاندان داری (HEFS) کا نصباب اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ طالب علموں میں یہ صلاحیت پیدا کی جاسکے کہ وہ:

- خاندان اور سماج کے تعلق سے اپنی شخصیت کی تفہیم کر سکیں۔
- ایک کار آمد فرد کے طور پر اور اپنے خاندان، برادری اور سماج کے ایک رکن کے طور پر اپنے کردار اور اپنی ذمے داریوں کی تفہیم کر سکیں۔
- مختلف شعبوں کے تعلق سے آموزش کو مربوط کر سکیں اور دیگر تعلیمی مضمایں کے ساتھ ان تعلق قائم کر سکیں۔
- حساسیت پیدا کر سکیں اور اشتراک عملی اور تنوع کا تقدیمی تجویز کر سکیں۔
- ماہرانہ پیشوں کے لیے اپنے ایف ایس کے الگ الگ شعبوں کی تحسین کر سکیں۔

جماعت XI

کل پیریڈ 180

نظریہ

2

تعارف : اس مضمون کا ارتقا اور زندگی کے معیار کے حوالے سے اس کی معنویت

60

اکائی I : خود کو سمجھنا : نوبوغت

- A اپنے وجود کا احساس۔ یہ سمجھنا کہ میں کون ہوں؟
- B خصوصیات اور ضروریات
- C شخص کی تشکیل پر پڑنے والے اثرات
- جیاتی اور جسمانی تبدیلیاں
- سماجی و ثقافتی سیاق
- جذباتی تبدیلیاں
- وقفي تبدیلیاں
- غذا، تغذیہ، صحت اور تندرستی
- E وسائل کا انتظام۔ وقت، پیسہ، تو انکی اور جگہ
- F کپڑے اور لباس
- G میڈیا اور مواصلاتی تکنالوجی
- H ترسیل کی مہارتیں
- I عالم گیر سماج میں رہنا اور کام کرنا

50

اکائی II: خاندان، برادری اور سماج کی تفہیم

- A 'دیگر اہم لوگوں' کے ساتھ تعلقات اور تال میل:
- خاندان
- اسکول۔ ہم عمر افراد اور معلمین
- برادری
- سماج

226

B۔ مختلف سیاق: خاندان، اسکول، برادری اور سماج کے مسائل اور ضروریات

اہم شعبے:

(a) صحت، تغذیہ اور صفائی سترہائی

(b) سرگرمی، کام اور ماحول

(c) وسائل کی دستیابی اور انتظام

(d) آموزش، تعلیم اور توسعہ

(e) ہندوستان میں پارچہ بانی (ٹیکسٹائل) کا اور شہ

30

اکائی III: بچپن

بقا، نشوونما اور ارتقا —

تغذیہ صحت اور خوش حالی —

نگہداشت اور تعلیم —

کپڑے اور لباس —

خصوصی ضروریات والے بچے —

بچوں پر سماجی اور ثقافتی اثرات —

227

38

اکائی IV: بلوغت

صحت اور تدرستی —

مالی منصوبہ بندی اور انتظام —

کپڑوں اور لباس کی نگہداشت اور دیکھ بھال —

ترسلیں و گفتگو میں مختلف تناظرات —

افراد کے حقوق اور فرائض —

گیارہوں جماعت کے لیے عملی کام

- 1- درج ذیل امور کے حوالے سے اپنی جسمانی خصوصیات کا مطالعہ:
- (a) عمر، قد، وزن، کلوہوں کا سائز، سینے چھاتی کی چوڑائی، کمر کی چوڑائی
 - (b) پہلی حیض (Menarche) کے وقت عمر: لڑکیاں
 - (c) دائری ہونا، آواز میں تبدیلی: لڑکے
 - (d) بالوں اور آنکھوں کا رنگ
- 2- درج ذیل امور کے حوالے سے اپنے آپ کو سمجھنا:
- (a) نشوونما کے اصول
 - (b) ساتھی، لڑکا اور لڑکی دونوں
 - (c) صحبت کی سطح
 - (d) کپڑوں کا سائز
- 3- (a) اپنی ایک دن کی خوراک کا ریکارڈ تیار کرنا
(b) موزوںیت کے لیے معیار کے اعتبار سے تجزیہ کرنا
- 4- (a) وقت کے استعمال اور کام کے لحاظ سے اپنی دن بھر کی سرگرمی کا ریکارڈ تیار کرنا
(b) عملی نوعیت کے اعتبار سے ان کی زمرہ بندی کرنا
- 5- (a) ایک دن میں استعمال ہوئے کپڑے اور ملبوسات کا ریکارڈ تیار کرنا
(b) اپنے لیے نظام الاؤقات مرتب کرنا
- 6- (a) مختلف مواقع پر دن بھر میں اپنے جذبات کا ریکارڈ تیار کرنا
(b) اس بات پر ردعمل کا اظہار کر کہ اسی طرح کے جذبات اور انھیں برتنے کا یہی طریقہ کار ”کیوں“ ہے۔
- 7- پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں شائع پانچ ایسے پیغامات کی فہرست بنائیے اور جن سے آپ متاثر ہوئے ہوں ان پر بحث کیجیے۔

8۔ درج ذیل عنوانات کے تعلق سے ہندوستان کے مختلف حصوں سے معلومات جمع کرنا اور ان پر تنقیدی بحث کرنا:

- (a) کھانے پینے کے رواج پہنچوں کے مجموعہ نہایتیں۔ روزہ، برٹ اور تہواروں کی تیاری
- (b) رسم و رواج اور پیشوں کے تعلق سے لباس پہننے کا طریقہ
- (c) ابتدائی برسوں میں بچوں کی دیکھ بھال۔ صنفی مائلتیں اور اختلافات
- (d) تربیل کی روایتی شکلیں پہنچوں کے مجموعہ نہایتیں۔ روزہ، برٹ اور تہواروں کی تیاری

9۔ مندرجہ ذیل افراد سے اتفاق اور ناتفاقی کے 4-5 پہلوؤں کی فہرست بنانا اور ان پر بحث کرنا

- (a) والدہ
- (b) والد
- (c) بھائی بہن
- (d) دوست
- (e) استاد

هم آہنگی اور باہمی رضامندی کی صورت حال پیدا کرنے کے لیے آپ نا اتفاقیوں کا حل کس طرح ملاش کریں گے؟

229

10۔ پڑوس کے کسی روایتی ٹیکسٹ میں، آرت رکرافٹ کی دستاویز کاری

11۔ بچوں کے لیے چلائے جا رہے کسی پروگرام / ادارے (سرکاری / رضامندی) میں جانا: پروگرام کے تحت جاری سرگرمیوں کا مشاہدہ اور ان پر پورٹ تیار کرنا۔

یا

پڑوس کے مختلف عمر کے کن ہی دو بچوں کا مشاہدہ اور ان کی سرگرمیوں اور برداشت پر پورٹ تیار کرنا

12۔ کوالٹی آف لائف (QOL) اور انسانی فروغ کا اشاریہ (HDI) بنانا

13۔ ریشوں اور ان کے استعمال میں تعلق:

- (a) حرارتی صفات اور آتش پذیری
- (b) رطوبت کا انجداب اور طمانیت

14۔ درج ذیل امور کے حوالوں سے 35 سے 60 سال تک کی عمر کی ایک عورت اور ایک مرد کا مطالعہ:

- (a) صحت اور بیماری

- (b) جسمانی سرگرمیاں اور وقت کا نظام
 (c) خوارک
 (d) چینجبر سے نہنا
 (e) میڈیا کی دستیابی اور تربیت
- 15۔ تغذیاتی اجزاء کے اہم ذرائع کی شناخت کے لیے غذاوں کی تغذیاتی قدر کا حساب لگانا۔
- 16۔ کسی نوبالع کے سیاق کے لیے موزوں مختلف صحت منداشتے (سنیکس) کی تیاری
- 17۔ مندرجہ درج ذیل اشیا پر چسپاں لبیل کا مطالعہ:
 (a) غذا
 (b) دوائیں اور کاسینیکس (زیبائشی اشیا)
 (c) کپڑے اور لباس
 (d) صارفین کے لیے پائیدار اشیا
- 18۔ مختلف مقامات حالات میں گروہی حرکیات کا مشاہدہ اور اندر راج مثلاً۔
 (a) گھر پر
 (b) کھانے پینے کی جگہوں پر
 (c) کھیل کے میدانوں میں
 (d) اسکول میں
 (e) تفریجی مقامات پر
- 19۔ گفتگو کے انفرادی طریقہ کار اور مہارت کا تجویز۔
- 20۔ مخصوص حالت / مقصد کے تحت اپنے لیے بجٹ تیار کرنا۔
- 21۔ صارف کے طور پر آپ کو یا خاندان کو درپیش پانچ مسائل کی فہرست بنانا اور ان سے نہنئے کے لیے حل تجویز کرنا۔

XII جماعت

کل پیریڈ 140

35

نظریہ

اکائی I: کام، معاش اور کیریئر

زندگی کا معیار (Quality of Life) —

سماجی ذمہ داری اور رضا کاری —

ہندوستان کے روایتی پیشے —

کام، عمر اور جنس —

کام کے تین رقیے اور رحمانات —

زندگی کی مہارتیں اور کام سے متعلق زندگی کا معیار —

کام اور کام کا ماحول —

کاروباری ہم (Entrepreneurship) —

اکائی II: کیریئر کے موقع :

اعلاً تعلیم اور پیشوں میں انسانی ماہولیات اور علوم خاندان داری کے امکانات

درج ذیل شعبوں میں اہم تصورات، معنویت اور مہارتیں:

A. تغذیہ، خذائی سائنس اور ٹکنالوژی

مخصوص پیشے اور شعبے

— طبی تغذیہ اور خذائیات

— تغذیہ عامہ اور صحت

— طعام سازی اور خذا کا انظام

— فوڈ پروسینگ اور ٹکنالوژی

— خذا کا معیار اور خذا کی حفاظت

B. فروغ انسانی اور مطالعات خاندان

مخصوص کیریئر اور شعبے

— ابتدائی بچپن کی نگہ داشت اور تعلیم

231

5

20

20

20

-C

- رہنمائی اور صلاح کاری
- خصوصی تعلیم اور امدادی خدمات
- بچوں نوجوانوں اور معمرا فراد کے لیے امدادی خدمات، اداروں اور پروگراموں کا انتظام

کپڑے اور بس

محضوں پیشے اور شعبے

- کپڑے اور بس کے ڈیزائن
- فیشن ڈیزائنگ اور فروخت کاری
- کپڑوں اور بس کی صنعت میں پیداوار اور معیار
- میوزیم میں کپڑوں کا تحفظ

20

-D

وسائل کا انتظام

محضوں پیشے اور شعبے

- انسانی وسائل کا انتظام
- انتظام ضیافت
- ماحولیاتِ کار (Ergonomics) اور اندر و فی ویر و فی مقامات کی ڈیزائنگ
- تقریبات کا انتظام
- خاندان کے لیے مالی وسائل کا انتظام اور تربیت صارفین

20

-E

مواصلات اور توسعے

محضوں پیشے اور شعبے

- ترقیاتی پروگراموں کی منصوبہ بندی اور نفاذ
- ترقیاتی ترسیل اور حفاظت
- میڈیا کا انتظام اور کالات
- میڈیا ڈیزائن اور تیاری
- کارپوریٹ ترسیل اور عوامی روابط

بارھویں جماعت کے لیے عملی کام

انجگ ایف ایس میں اختصاصات

تغذیہ، علم غذا اور ٹینکنالوجی

غذا میں ملاوت کی سطح کی جانچ۔

- 1- تغذیاتی پروگراموں کے لیے معاون غذاوں کی تشكیل اور تیاری۔
- 2- کسی اسکول کی کٹیشین یا مڈی میل اسکیم کے لیے کھانے کی فہرست (کھانے کا چارٹ) کی منصوبہ بندی۔
- 3- معمر یا بزرگ شخص کے لیے معقول کی خوارک کو قدرے آسان اور زو دھرم خوارک میں بدلنا۔
- 4- کسی ڈبے بننے کا ڈیزائن بنانا، اس کی تیاری کرنا اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا۔
- 5- فروع انسانی اور مطالعات خاندان

- 6- معاون تدریسی اشیا کی تیاری اور استعمال، دیسی اور مقامی طور پر دست یاب ساز و سامان کو استعمال کرنا تا کہ سماج میں پھوپھو، نوبالغوں اور بالغوں کے لیے سماجی اعتبار سے بامعنی پیغامات کی ترسیل ہو سکے۔
- 7- اساتذہ کی نگرانی میں کیریئر گائیڈنس، تغذیہ سے متعلق کاؤنسلنگ اور نجی کاؤنسلنگ کے شعبے میں ساتھیوں کے ساتھی نقی سیشن (Mock Sessions) منعقد کرنا۔

کپڑے اور لباس

- 8- اطلاقی ٹینکنیکیں استعمال کرتے ہوئے اشیا کی تیاری: ٹائی اینڈ ڈائی ریائلک / بلاک پرینٹنگ۔
- 9- ملبوسات کی صنعت میں کواٹی کنٹرول کی ٹینکنیکوں کا اطلاق:

(a) کپڑے کا معائنہ

(b) بخیوں اور سیوں کا معیار

(c) سائز کے لیبل

- 10- کپڑوں کی دیکھ بھال اور گہد داشت:

(a) رفو

(b) صفائی

وسائل کا انتظام

11۔ کسی بینک رڈاک خانے میں کھاتہ کھو لیے۔ بینگ کی بنیادی کارروائیاں سیکھیے (بینک یا ڈاک خانے سے اصلی فارم لے کر تجربہ گاہ میں نقل (Mock) پرمنی مشقیں)۔

12۔ طے شدہ مخصوص اصولوں کی بنیاد پر کسی تقریب کا مشاہدہ اور تنقیدی تجربہ:

13۔ صارفین کی تعلیم و تربیت کے لیے لیف لیٹ اور پھلٹ تیار کرنا (درج ذیل میں سے کسی ایک پر)

(a) سی پی اے (صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون)

(b) صارفین کی ذمہ داریاں

(c) صارفین کی تنظیمیں

(d) صارفین کے مسائل

14۔ کسی اشہار کا تجزیہ کسی تنظیم میں درج ذیل انسانی وسائل کے کسی ایک پوسٹ (Position) کے لیے اشہار تیار کیجیے اور درج ذیل نکات کی نشان دہی کیجیے۔

(a) پوزیشن اشہار

(b) تعلیمی قابلیت

(c) ضروری مہارت

234

توسیع اور ترسیل

15۔ درج ذیل امور کے حوالے سے پرنٹ، ریڈ یا اور الکٹرانک میڈیا کا تجزیہ اور تبادلہ خیال:

فونکس، پیشکش، ٹکنالوجی اور خرچ

16۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر گروپوں کے ساتھ بات چیت

(a) معاشرتی پیغامات۔ جنسی مساوات، ایڈس، مادہ جنین کشی، بچہ مزدوری حقوق کی پامالی اور اس طرح کے دیگر

موضوعات

(b) سائنسی حقائق دریافت

(c) کوئی اہم واقعہ تقریب

1- درج ذیل میں سے کوئی ایک پروجکٹ لیا جاسکتا ہے اور اس کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے:

- (a) اپنے مقامی علاقے میں رائج روایتی پیشیوں کا تجزیہ، ان کا آغاز موجودہ صورت حال اور انھیں درپیش مسائل کا تجزیہ۔
- (b) صنفی حیثیت، کاروباری مہم کے موقع اور مستقبل کے کیریئر اور خاندان کی شرکت۔

2- ایسے کسی عوامی رسم کاری مہم کی دستاویز کاری جس پر آپ کے علاقے میں عمل درآمد کیا جا رہا ہو۔ درج ذیل حوالوں سے دستاویز کاری کی جائے گی:

- (a) مہم کا مقصد
- (b) فوکل گروپ
- (c) نفاذی عمل درآمد کے طریقہ کار
- (d) اس میں شامل افراد
- (e) میڈیا اور استعمال ہونے والے طریقہ کار
مہم کی معنویت پر رائے زنی۔

235

3- مندرجہ ذیل حوالوں سے کسی فرقے کے لیے جاری ایسے مربوط پروگرام کا مطالعہ جس پر آپ کے علاقے میں عمل درآمد کیا جا رہا ہو:

- (a) پروگرام کے مقاصد
- (b) فوکل گروپ
- (c) عمل درآمد کے طریقہ کار
- (d) اس میں شامل افراد

4- آس پاس کے علاقوں میں جا کر دونوں بالغوں اور دو بالغوں کا انٹرویو لینا اور خصوصی ضروریات والے افراد کے متعلق ان کی سوچ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔

5- خصوصی ضروریات والے کسی فرد، بچے یا جوان کی خوارک کپڑا، سرگرمی، جسمانی اور نفسیاتی ضروریات کو جاننے کے لیے ان کا خاکہ تیار کرنا۔

6۔ اپنے اسکول میں کسی تقریب کی منصوبہ بندی کیجیے اور تقریب منعقد کیجیے۔ درج ذیل امور کے تعلق سے اس کا تجزیہ کریں۔

- (a) اس کی معنویت
- (b) وسائل کی دستیابی اور ان کا حصول
- (c) تقریب کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل
- (d) مالی معاملات
- (e) شامل افراد کے جوابی تاثرات (فائدہ بیک)
- (f) مستقبل کے لیے ترمیمات تجویز کرنا

7۔ مختلف فوکل گروپوں کے لیے ترسیل کے مختلف طریقہ کا استعمال کرتے ہوئے تغذیہ، صحت اور زندگی کی مہارتوں سے متعلق پیغامات کی منصوبہ بندی۔

8۔ ڈبے بند خواراک، ان کی پکنگ اور لیبل پر چسپاں معلومات سے متعلق بازار کا سروے۔

not to be republished
© NCERT

نوٹس
